

حیاتِ پیروی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حیاتِ پیروی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علامہ سید عبدالحی حسنیؒ

محمد احسنی ٹرسٹ
تکچہ کلان، رائے بربلی

حدیثِ نبوی

یعنی

رسول اللہ ﷺ کی اخلاقی و معاشرتی تعلیمات کا مجموعہ

از: حضرت مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ
(والد ماجد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ)

ترجمہ: مولانا شمس الحق ندوی
مدیر تعمیر حیات، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

ترتیب: مولانا عمار حسنی ندوی
مہتمم مدرسہ مظہر الاسلام بلوچ پورہ لکھنؤ

طابع و ناشر

محمد الحسنی ٹرسٹ

تکلیف کلاں، دائرہ شاہ علم اللہ، رائے بریلی (یوپی)

(جملہ حقوق محفوظ)

بار اول

۱۴۲۲ھ - ۲۰۰۱ء

نام کتاب	:	حدیث نبوی
نام مؤلف	:	حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی
نام مترجم	:	مولانا نسیم الحق ندوی
نام مرتب	:	مولانا عمار شی ندوی
صفحات	:	
طباعت	:	کا کوری آفسٹ پریس لکھنؤ
کمپوزنگ	:	ناشر کمپیوٹر امین آباد، لکھنؤ۔ فون : 281223
تعداد	:	۲۰۰۰ (دو ہزار)
ہدیہ	:	
اشاکٹ	:	ندوی بک ڈپو، لکھنؤ
ناشر و طابع	:	محمد احسنی ٹرسٹ، رائے بریلی (یو پی)

فہرست

- ۵..... عرض ناشر
- ۶..... حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی
- ۱۱..... پیش لفظ..... مولانا محمد رابع حسنی ندوی
- ۱۶..... مؤلف کتاب..... حضرت مولانا حکیم سید عبدالرحی حسنی
- ۲۳..... توحید کا بیان
- ۳۵..... اخلاص و للہیت
- ۴۲..... کتاب و سنت
- ۴۸..... اللہ اور اس کے رسول سے محبت
- ۵۱..... اہل بیت سے محبت
- ۵۶..... صحابہ کرام کی محبت
- ۶۵..... دوستی ہو یا دشمنی، خدا کے لئے ہو
- ۶۹..... مسلمانوں کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ
- ۷۶..... محنت و مزدوری اور ہاتھ سے کمانے کی اہمیت و فضیلت
- ۸۳..... زہد و قناعت اور اللہ پر یقین
- ۸۹..... خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت
- ۹۵..... ایثار اور ایک دوسرے کا تعاون و دل داری
- ۹۹..... دوسروں کے ساتھ ہمدردی و بھی خواہی، مومن کی شان
- ۱۰۳..... باہم صلح اور میل جول کرانے کی فضیلت
- ۱۰۸..... والدین کے ساتھ حسن سلوک
- ۱۱۲..... والدین کے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک
- ۱۱۳..... صلہ رحمی
- ۱۱۹..... گھر والوں پر خرچ کرنے کا اجر
- ۱۲۳..... بیوی پر شوہر کے حقوق

- عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ۱۲۶
- بچوں کی تعلیم و تربیت ۱۳۰
- مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ محبت و نرمی ۱۳۳
- پڑوسی کا حق اور اس کے بارے میں وصیت ۱۳۷
- مہمان نوازی ۱۳۰
- خوش اخلاقی اور مہربانی کی اہمیت و فضیلت ۱۳۳
- جانوروں کے ساتھ نرمی اور رحم کے برتاؤ کی فضیلت ۱۳۶
- آداب معاشرت ۱۵۰
- نیک لوگوں کی صحبت ۱۶۱
- تواضع و خوش اخلاقی ۱۶۲
- بردباری اور نرم دلی کی فضیلت ۱۶۸
- امانت اور وعدہ کا پاس و لحاظ ۱۷۲
- صداقت و راستی ۱۷۶
- شرم و حیا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ۱۸۰
- مصیبت و آزمائش میں صبر و رضا ۱۸۳
- احسان شناسی ۱۸۷
- اعتماد و بھروسہ ۱۹۰
- تقویٰ و پرہیزگاری ۱۹۳
- نیک کاموں میں جلدی اور استقامت ۱۹۶
- عبادت و طاعت میں اعتدال ۱۹۹
- قرآن کی فضیلت ۲۰۳
- خدا کا ذکر ۲۱۳
- اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ۲۱۷
- دُعا ۲۲۱
- توبہ و استغفار ۲۳۷
- رسول اللہ پر دُرود بھیجنے کا ثواب ۲۴۱
- تفصیلی فہرست ۲۴۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

اللہ کی توفیق پر محمد الحسنی ٹرسٹ سرپا، سپاس اور شکر و امتنان کے جذبات سے لبریز ہے۔ جس نے سب سے پہلے ”قرآنی افادات“ کی طباعت کی سعادت حاصل کی، اور قارئین نے بھی اس کی دل کھول کر پذیرائی کی، اور تیسرے ایڈیشن کی ضرورت پیش آگئی۔

اس نفع بخش اور عظیم و جلیل تحفہ کے بعد ”حدیث نبوی“ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جو ”قرآنی افادات“ کے مؤلف مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ کے والد ماجد حضرت مولانا حکیم عبدالحی صاحبؒ کے انتخاب کردہ مجموعہ احادیث ”تہذیب الاخلاق“ کا ترجمہ ہے جس کے عالم عرب میں کئی ایڈیشن شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے یہاں کے مدارس میں بھی داخل نصاب ہے اس کا اردو ترجمہ ذیلی عنوانات اور مختصر حاشیہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرما کر اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اور عام قارئین کے لئے نافع بنا کر زیادہ سے زیادہ حضرات کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

ترجمہ مکرم و محترم مولانا شمس الحق صاحب ندوی مدظلہ العالی نے کیا تھا، جو تعمیر حیات میں بالاقساط شائع ہوتا رہا، لیکن بعض مواعظ کی وجہ سے اس کو کتابی شکل میں شائع کرنے میں کافی تاخیر ہوئی، عزیزی مولوی عمار حسنی سلمہ اللہ تعالیٰ نے ذیلی عنوانات لگائے اور جو احادیث ”معارف الحدیث“ اور زاد سفر میں مل گئیں ان کا ترجمہ بھی وہیں سے لے لیا۔ عبادات سے متعلق حصہ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے جو ان شاء اللہ بعد میں الگ سے شائع کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو ان کی خدمت کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم اور دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے۔ (آمین)

والسلام

ناشر

۲۰ صفر ۱۴۲۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

از :- حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد

والآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين -

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعثت نبوی کے بنیادی مقاصد اور اہم ترین فوائد

چار آیتوں میں بیان فرمائے ہیں، پہلی آیت میں حضرت ابراہیمؑ کی زبانی ارشاد ربانی ہے :

اے ہمارے رب بھیج ان میں ان ہی میں سے ایک

رسول جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور

کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے

بے شک تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(البقرة، آیت: ۱۲۹)

دوسری آیت میں نعمتوں کی تذکیر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :

جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں

سے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور

کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ

آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(البقرة، آیت: ۱۵۱-۱۵۲)

تیسری آیت میں ارشاد ہے:

بے شک احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جبکہ

اس نے ان میں ایک رسول بھیجا ان ہی میں سے جو

انکو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انکا تزکیہ کرتا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ

رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ہے اور انکو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے گرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

وَلَا تَكُنُوا مِنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
(آل عمران، آیت: ۱۶۳)

چوتھی آیت میں ارشاد ہے :

وہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے گرچہ وہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

(الجمعة، آیت: ۲-۳)

ان چاروں آیتوں میں بحث کے چار بنیادی مقاصد بیان کئے گئے ہیں (۱) تلاوت۔ (۲) تعلیم کتاب۔ (۳) تعلیم حکمت۔ (۴) تزکیہ نفوس۔ یہی دعوت دین کے چار اہم اور بنیادی ارکان ہیں اور اسی سے اصلاح و تربیت کے میدان میں اعجاز نبوی ظاہر ہوتا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی احکامات اور قوانین ہیں وہ سب انہیں کی تکمیل کے طور پر ہیں۔

تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفوس کی دعوت نبوی میں بڑی اہمیت رہی ہے اور بڑے وسیع پیمانہ پر آپ ﷺ نے اس کو اجاگر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر حکمت کا لفظ اخلاق فاضلہ اور اسلامی آداب کے لئے استعمال ہوا ہے، سورہ اسراء میں چند اسلامی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر اخیر میں ارشاد ہے :

یہ ان چیزوں میں سے ہے جسکی وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حکمت میں سے۔

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔
(الاسراء، آیت: ۳۹)

حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر میں ارشاد ہوتا ہے :

اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ۔
(لقمان، آیت: ۱۲)

اس کے بعد اخلاق عالیہ اور صفات حسنہ کی تعلیم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کا سرچشمہ ان کی وہ حکمت تھی جو ان پر اللہ کی ایک خاص نعمت تھی۔ اس کے علاوہ متعدد آیات میں اخلاق و صفات کے لئے حکمت کا استعمال ہوا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں حکمت کا اخلاق سے خاص ربط ہے۔ اور ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ ﷺ نے اخلاق کی تعلیم پر بہت زور دیا ہے اور اس کو مقاصد بعثت میں شمار فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے :

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔
مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں۔

خود آپ ﷺ کے بارے میں ارشاد ہے :

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
آپ بلند اخلاق والے ہیں۔

صحابہ کرام کی جماعت آپ ﷺ کے بلند اخلاق کا پر تو تھی۔ آپ کی صحبت کیسی اثر سے ان کے اندر وہ بلند اخلاق پیدا ہو گئے تھے جن کا تصور بھی کسی جماعت بشر میں مشکل ہے خود اس کی شہادت قرآن مجید میں موجود ہے ارشاد ہے :

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ (الحجرات، آیت: ۷-۸)
اور لیکن اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور نفرت ڈال دی کفر کی گناہ کی اور نافرمانی کی۔

آپ ﷺ نے بھی اس کی شہادت دی فرمان نبوی ہے :

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔
میری امت کے بہترین لوگ میری صدی کے ہیں پھر جو ان کے بعد ہوں گے (یعنی دوسری صدی) پھر جو ان کے بعد ہوں گے (یعنی تیسری صدی)۔

دوست و دشمن سب اس کے معترف ہوئے، تاریخ میں ان کے مکارم اخلاق، فضائل اعمال، حسن سیرت و اخلاق کے ایسے نمونے موجود ہیں جو نادر الوقوع بھی ہیں اور قابل فخر بھی

اور یہ سب آپ کی تربیت اور محبت کا صدقہ تھا۔ اور آج بھی جو اخلاق و کردار کا وجود ہے وہ سب اس در کا طفیل ہے۔

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پورا نہیں کی لگائی ہوئی ہے زمانہ نبوت میں براہ راست استفادہ کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے اقوال و افعال کے ذریعہ (جسکو اصطلاح میں علم حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے) یہ سلسلہ چلتا رہا، ایمان کی تازگی، دلوں کی زندگی، نفوس کے تزکیہ اور اخلاق فاضلہ کے حصول کا یہی سب سے زیادہ مفید اور اہم ذریعہ تھا۔

ابتدائی صدیوں میں جب حدیث کی تدوین کا کام ہوا تو مختلف موضوعات سے متعلق احادیث جمع کی گئیں۔ اور خاص طور پر احادیث احکام پر توجہ مرکوز کی گئی، اس کے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ احادیث کیجاگی جائیں جو تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفوس کے باب سے تعلق رکھتی ہیں علماء نے اس طرف توجہ کی اور متعدد کتابیں تصنیف کی گئیں۔ لیکن ان میں سرفہرست تین کتابیں ہیں جن کو قبول عام اور اوج تام حاصل ہوا، ان میں پہلی کتاب امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کی ”الأدب المفرد“ (۱) ہے دوسری کتاب امام منذری کی ”الترغیب والترہیب“ ہے جو ضخیم چار جلدوں میں طبع ہوئی ہے تیسری اس سلسلہ کی مقبول ترین کتاب امام نووی کی ”ریاض الصالحین“ (۲) ہے جو بہت سے مدارس میں داخل نصاب ہے، لیکن اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ طلبہ مدارس کے لئے اس سے مختصر اور سہل کتاب ہو جس سے استفادہ آسان ہو، اور وہ مندرجہ بالا کتابوں کے لئے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہو۔

راقم کے علم میں تھا کہ والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی نے اس موضوع پر ایک مختصر اور جامع کتاب مرتب فرمائی ہے۔ اس کا نام انھوں نے ”تلخیص الاخبار“ رکھا تھا، اور

(۱) اس کتاب کا شتہ اردو زبان میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی نے ترجمہ کیا ہے اور وہ شائع بھی ہوا ہے۔

(۲) اس کا اردو ترجمہ راقم کی ہمشیرہ محترمہ امۃ اللہ تسلیم صاحبہ نے کیا ہے اور وہ زاد سفر کے نام سے مقبول ہے۔

”منتہی الافکار“ کے نام سے دو جلدوں میں اس کی نفیس شرح بھی فرمائی تھی، راقم نے محسوس کیا کہ اس کتاب سے خلا بہتر طریقہ پر پڑھو سکتا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے ”تہذیب الاخلاق“ کے نام سے کتاب شائع کی گئی اور مدارس میں داخل نصاب ہوئی (۱)۔

یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور مصنف کتاب کے ہید سعید بر اور زاوہ عزیز مولوی محمد الحسنی مرحوم کے نام پر قائم ٹرسٹ سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائے۔

أبو الحسن علی الندوی

۶ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ

(۱) ترجمہ از عربی و انجلیس: مولوی بلال عہدالچی حسنی ندوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

مولانا محمد رابع حسنی ندوی

ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء

اسلام اور دوسرے ادیان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ صرف بعض عقیدوں اور عبادت کی صرف بعض شکلوں میں محدود نہیں، وہ صحیح معنوں میں دین ہے جس کے معنی عربی میں زندگی کا معمول اور طریقہ کار ہے اور انسان کا وہ عمل ہے جو وہ اپنی پسند اور اپنے مقصد سے کرتا ہے۔ اس طرح عربی میں دین کے لفظ کا استعمال انسان کی زندگی میں اختیار کردہ طریقوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور اسلام میں دین کا مفہوم اسی وسعت میں اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ کہ اللہ کے یہاں دین تو اسلام ہے۔ یعنی زندگی کا وہی طور طریق قابل قبول ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ کہ جو شخص اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام کا بتایا ہوا طور و طریق وہ طور و طریق ہے جو ہم کو قرآن مجید سے پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے برتے ہوئے اور بتائے ہوئے احکام اور عمل سے پہنچا ہے اور وہ ہے اللہ کو خدائے واحد مان کر اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق طریقہ زندگی اختیار کرنا، دوسرے معنوں میں اپنے کو خدائے واحد کے حکموں اور مرضیات کے حوالہ کر دینا ہے، اور یہی اسلام کے لفظ کے معنی بھی ہیں اور مسلمان سے یہی مطلوب بھی ہے کہ

وہ خود کو اپنے پروردگار کے حوالہ کر دے یعنی اپنی مرضی کو اس کی مرضی کا تابع کر دے۔

یہ بات اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں مذہب کا مطلب ایک یا کئی خداؤں کو ماننے ہوئے صرف ایک متعین طریقہ سے ان کی عبادت کر لینا ہے۔ ان کے یہاں مذہب زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے لئے کوئی متعین احکام نہیں رکھتا ہے لیکن اسلام میں صرف ایک محدود عقیدہ اور کچھ متعین شکلوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ عقیدہ و عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات و معاشرت اور اخلاق کے لئے خصوصی ہدایات اور رہنمائیاں ہیں اس میں عدل و انصاف، اخلاق کی درستگی اور نیکی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، ظلم و زیادتی سے گریز، بے حیائی اور گندی باتوں سے پرہیز، شرافت و انسانی خوبیوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں اسلام میں دین کے اندر ہی داخل ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کیساتھ اچھا برتاؤ کرو، کہیں آتا ہے کہ ناپ و تول میں بے ایمانی نہ کرو۔ اور کہیں آتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح اسلام نے دین کو پوری انسانی زندگی پر پھیلا دیا ہے اور زندگی کو اس کا پابند بنایا ہے۔ جس کا بیان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے کلام یعنی حدیث شریف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو دین کے احاطے میں کر دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی زیادتی سے تمام مسلمان محفوظ رہیں اور ہجرت کرنے والا دراصل وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اسی طرح اسلام کے ماننے والے کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اور کیا طریقہ کار ضروری اور مفید ہے اس کی

تفصیل ہم کو رسول اللہ ﷺ کی ہدایات اور احکامات میں ملتی ہے۔ اور یہ احکامات آپ کی احادیث میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور ﷺ کی نبوی زندگی ۲۳ سال ہوئی۔ ۱۳ سال مکہ مکرمہ میں جو آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ میں صرف کئے اور اس کے سلسلہ میں لوگوں کی بے اعتنائی، ایذا رسانی اور دھمکیوں کو برداشت کرنے میں گزارے، آپ نے یہ سب برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے جو اس مرحلہ کے لئے دیا گیا تھا۔ کہ نماز (یعنی عبادات الہی) کو ادا کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یعنی کسی کی شرارت اور ایذا رسانی کا جواب نہ دو، انتقام نہ لو۔ حتیٰ کہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، پھر دس سال مدینہ منورہ میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے اور دین اسلام کی تفصیلات بتانے اور ان پر عمل کروانے میں گذرے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر کفار کی زیادتیوں کا جواب دینے کی اجازت ملی اور کفار نے جب مسلمانوں پر حملے کئے اور جنگیں کیں تب آپ نے اپنے رفقاء کے ساتھ ان حملوں اور جنگوں کا مقابلہ کیا۔ اور بہادری اور غیرت دینی اور اسلام کو سر بلند رکھنے والے جذبہ سے کام لیا اور ان جنگوں میں بھی اعلیٰ انسانی اقدار کا لحاظ رکھا۔ یہ سب آپ کے رفقاء اور ساتھ دینے والوں (صحابہ کرام) نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور ان سب پر عمل کیا اور اپنے بعد والوں کو سنایا، بتایا، پھر ان کے سننے اور دیکھنے والوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو بتایا اور سنایا اور یہ سب حدیث شریف کے ذخیروں میں محفوظ ہو گیا۔ حدیث کے معنی گفتگو اور باتوں کے ہیں۔ حدیث رسول کا مطلب رسول کی باتیں اور گفتگو کے ہوئے اور یہ سب گفتگو اور باتیں دین اسلام کی باتیں ہوئیں۔ رسول کی باتیں ارشادات اور ہدایات میں وہ ذخیرہ ہے جن سے دین اسلام اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ سامنے آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اس طرح حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے کلام ”قرآن مجید“ کے ساتھ اسلام کی تمام باتوں کا ذخیرہ اور خزانہ ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کو اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق کرنے کے لئے حدیث کو سننا، پڑھنا اور معلوم کرنا ہوتا ہے۔

قرآن مجید اور حدیث شریف اصلاً عربی زبان میں ہیں۔ حدیث شریف میں ایک حصہ تو حضور ﷺ کی ان ہدایات اور ہنمائی کا ہے جن کا تعلق زیادہ تر مذہب کے عبادتی اور معاملاتی پہلو سے ہے۔ اور یہ زیادہ تر فقہ کے نام سے اور مسائل عبادات و احکام الہی کے جاننے کے لئے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں دوسرا حصہ اخلاق و سیرت سازی سے تعلق رکھتا ہے اور ان کا اخلاق کی درستگی اور سیرت سازی میں اور انسان کی زندگی اور طور و طریق کو بہتر بنانے اور ترقی دینے میں بڑا کردار ہے۔ حدیث شریف کے مسائل عبادت و احکام فقہ تو کوئی بھی عالم دین حسب ضرورت و طلب بتا سکتا ہے اور مدرسہ میں پڑھا سکتا ہے اور یہ سلسلہ الحمد للہ دور اول کے بعد ہی سے قائم چلا آ رہا ہے لیکن دوسرا پہلو جو اخلاق کی درستگی اور سیرت سازی کا ہے اس کے لئے حضور ﷺ کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اصلاح باطن اور تقویٰ اور خوف خدا سب سے زیادہ خوف آخرت سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے حدیث شریف میں بڑا ذریعہ اور اس کے مضامین اس کا بڑا ذخیرہ ہیں۔

عربی میں تو اس موضوع پر کئی تصانیف ہیں لیکن اردو میں اس کا انتظام بہت کم تھا ابھی ایک تھوڑی مدت ہی گزری کہ طریق نجات کے نام سے حدیث شریف کا ایک انتخاب پھر ”زاد سفر“ کے نام سے دوسرا ترجمہ احادیث سامنے آیا جو عربی کے ایک اہم مجموعہ احادیث ”ریاض الصالحین“ کا ترجمہ ہے، طریق النجات اور زاد سفر کے علاوہ کئی مفصل اور شرح کے ساتھ منتخب احادیث کے ترجمے کئے گئے جیسے معارف الحدیث وغیرہ، لیکن بعض پہلوؤں کے اعتبار سے ”طریق النجات“ اور ”زاد سفر“ کے بعد یہ تیسرا مجموعہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے جو ایک بڑے عالم دین مولانا سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کردہ مجموعہ احادیث کا اردو ترجمہ ہے جو ندوہ کے ایک بڑے استاد مولانا شمس الحق صاحب ندوی نے کیا ہے اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے فرزند اکبر کے پوتے مولوی عمار عبدالعلی حسنی ندوی نے ذیلی عنوانات اور ضروری حواشی
تحریر کئے۔ اس طرح یہ مجموعہ طباعت کے لئے تیار کر لیا ہے۔

مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تقریباً موجودہ دور ہی میں تھے اس لئے
ان کے مجموعہ میں وقت کی ضرورت اور موجودہ مسلم نسل کی اہلیت کی بڑی رعایت ہے۔ چنانچہ یہ
مجموعہ موجودہ دور کے لئے بڑا سازگار ہے۔ اس طرح اردو داں مسلمانوں کے لئے یہ ایک مفید کام
انجام پایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی

از مولانا ڈاکٹر عبد العلی حسنی ندوی ایم، بی، بی، ایس
عالم محقق، مورخ کبیر مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی کے
خانوادہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، یہ وہ سادات کا خاندان ہے جس کے مورث اعلیٰ شیخ الاسلام
سید قطب الدین محمد المدنی ہندوستان آئے، یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے حقیقی بھانجے تھے،
اور جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے تھے، سلطان قطب الدین ایک آپ کا مرید تھا، آپ کو رویائے
صادقہ میں بارگاہ نبوی سے حکم ملا کہ ہندوستان جا کر ظلمت کفر مٹائیں، چنانچہ آپ چھٹی صدی کی
ابتداء میں ہندوستان تشریف لائے، اور دعوت اسلام کا عظیم کام اور جہاد کر کے اس ظلمت کدہ کو
نور اسلام سے منور کیا، آپ کی اولاد میں اتنے علماء و اولیاء پیدا ہوئے کہ کم خاندانوں میں ہوئے
ہوں گے، ان میں حضرت سید شاہ علم اللہ (جن کی اتباع سنت میں نظیر نہیں تھی) اور پھر حضرت
سید احمد شہیدؒ کو زیادہ شہرت و مقبولیت ملی، حضرت سید صاحب شہید قدس سرہ کے انفاس قدسیہ
سے جو فائدہ ہو نچا ہے، اس کی دور دور نظیر نہیں۔

اس سلسلہ کی ایک مبارک کڑی مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب (سابق ناظم ندوۃ العلماء)
کی ذات گرامی ہے، آپ ۱۸/۱۸ رمضان المبارک ۱۲۸۶ھ (۲۲ دسمبر ۱۸۶۹ء) میں اپنے وطن دائرہ
شاہ علم اللہ (تکیہ کلاں) بیرون شہر رائے بریلی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد مولانا حکیم سید
فخر الدین ایک یگانہ روزگار فاضل، متبع سنت بزرگ اور شاعر بھی تھے، خیالی تخلص کرتے تھے، ثانی

صاحبہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں اور نہایت خدارسیدہ، عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں، آپ خیر و صلاح کے ماحول میں علماء، بزرگوں کی گود میں پروان چڑھے بڑی سلیم فطرت اور پاک صاف طبیعت پائی تھی، آپ کے بڑے بیان کرتے تھے کہ بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ مزاج، خاموش اور متین تھے، نہ کبھی شرارت کی، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی سے لڑے جھگڑے، کھیل کود کی طرف زیادہ طبیعت راغب نہیں ہوتی تھی، نہ کسی کی شکایت کرتے تھے، نہ کسی کو ضرر پہنچنے دیتے تھے، کوئی بدزبانی بھی کرتا تو خاموش رہتے، اور کچھ کہتے نہیں تھے۔

جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی بزرگوں سے پائی پھر لکھنؤ آئے اور وہاں کے مشہور علماء سے منقولات و معقولات کی بعض اہم کتابیں پڑھیں، ان میں خصوصیت سے مولانا محمد نعیم صاحب فرنگی محلی اور مولانا سید امیر علی بیچ آبادی قابل ذکر ہیں، کانپور گئے وہاں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا، اور ان کی شفقتیں و محبتیں لیں، بھوپال جو کہ اس زمانہ میں علم و فضل کا مرکز بنا ہوا تھا، آپ گئے اور شیخ عبدالحق کالمی سے فیض اٹھایا، حدیث شریف کا درس شیخ حسین بن محسن انصاری یمنی سے لیا اور وہاں ان کے باکمال صاحبزادے شیخ محمد سے ادب اور افسر الاطباء حکیم عبدالعلی سے طب پڑھا، دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مدرس مولانا سید احمد دہلوی سے ریاضی پڑھی، اس کے بعد ایک علمی و تاریخی سفر دہلی کا کیا، اور دیوبند، گنگوہ، سہارنپور، سرہند بھی گئے، اور وہاں کے بڑے علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضری دی، میاں نذیر حسین دہلوی اور مولانا عبدالرحمن پانی پتی نے حدیث کی اجازت دی۔

آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں، وہ ایسا روحانی تربیت گاہ تھا، جس سے ہزاروں تشنہ کام دور دور سے آکر سیراب ہوتے تھے، آپ غیر محسوس طور پر ان انوار سے بہرہ اندوز ہوتے رہے، یہی دبی ہوئی چنگاریاں تھیں، جنہوں نے فراغت تعلیم کے بعد شعلہ زن ہونا

چاہا، چنانچہ قطب عصر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے بیعت ہو گئے، اور مولانا کی توجہات لیں، لیکن جلد ہی ان کی وفات ہو جانے کی وجہ سے زیادہ استفادہ نہ کر سکے، چنانچہ منازل سلوک اپنے خسر حضرت شاہ ضیاء النبی صاحب اور اپنے والد ماجد اور شاہ عبدالسلام صاحب حسینی ہنسوی کے بعض خلفاء کی خدمت میں طے کئے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ مکہ معظمہ ہجرت کر چکے تھے، سے خط کے ذریعہ بیعت کی، اور اجازت بیعت و ارشاد بھی پائی۔

آپ اصلاح معاشرہ، تبلیغ دین، اور اشاعت علم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ندوۃ العلماء کی تحریک جب شروع ہوئی، تو اس کے بنیادی اور اہم لوگوں میں آپ تھے، اور اس کے لئے بڑے جوش و استقلال اور ایثار و محنت کے ساتھ اپنی خدمات پیش کیں، آپ کے خلوص استقلال اور معاملہ فہمی پر آپ کے علم و فضل کے اعتراف کے ساتھ تمام ارکان ندوہ کو بھرپور اعتماد تھا، آپ نے دارالعلوم میں مدرس کے فرائض بھی انجام دیئے، مولانا سید سلیمان ندوی اسی زمانہ کے طالب علم ہیں، ندوۃ العلماء میں ایک مدت تک بحیثیت مددگار ناظم کے کام کیا، پھر متفقہ طور پر ناظم چنے گئے، اور اس منصب پر ۱۸ سال فائز رہے۔

آپ بڑے درجہ کے عالم، شیخ، مربی، اور مورخ تھے لیکن تمام علوم میں زیادہ دلچسپی و تعلق حدیث شریف سے تھا، اور اس کے لئے آپ اپنا زیادہ وقت صرف کرنا چاہتے تھے، اسی لئے حدیث کا مجموعہ مرتب کیا، اور سنن ابو داؤد پر حواشی بھی تحریر فرمائے، ذریعہ معاش کے حصول میں آپ اتنا ہی وقت لگانا چاہتے تھے، جس سے صحیح طور پر گذر بسر ہو سکے، اس میں اٹھاک نہیں چاہتے تھے، بلکہ بہتوں کا علاج بلا فیس کرتے تھے، اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آنے دیتے تھے کہ آمدنی بڑھائی جائے، آپ کی سیرت توکل کا پورا مظہر تھی، خرچ کرنے میں بھی سنت کا پورا لحاظ فرماتے تھے، ذخیرہ نہیں کرتے تھے، روز کار و روز خرچ کرتے تھے، اور کہتے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔

آپ کا مزاج خالص علمی و دینی تھا، دنیا سے جو کچھ تعلق تھا وہ کتب بینی اور تصنیف و تالیف

کاتھا، تنہائی پسند کرتے تھے، بے ضرورت ملتے جلتے نہیں تھے، کوئی بات زبان سے نہ نکالتے تھے، بے ضرورت نہ کسی کے یہاں جاتے نہ کسی کو بے ضرورت بلاتے، مگر کوئی آجاتا تو اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، آپ اپنے معمولات کے بڑے پابند تھے، اس میں فرق نہ آنے دیتے تھے، قرض کی ضرورت پڑتی تو لیتے لیکن جلد ہی ادا کرنے کی کوشش کرتے، غریبوں اور بیکسوں کی ہمدردی و جذبہ تعاون کا یہ عالم تھا، کہ اکثر مساکین و بیوگان کے وظائف ماہوار مقرر تھے، والدین کے انتہائی مطیع و فرمانبردار تھے ہی ان کے احباب و متعلقین کا بڑا خیال رہتا تھا، اور گھر میں اس کی تاکید بھی کرتے تھے، جس سے تکلیف ہو چتی اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے۔

حافظہ کمزور تھا لیکن نہایت ذہین تھے، ذکاوت و فراست کا یہ حال تھا، کہ مخالف بھی آپ کی فراست سے ڈرتا تھا، ہر معاملہ کو شریعت کے ترازو میں تولتے تھے، نمود و نمائش سے آپ کی طبیعت کو تنفر تھا، کسی کا دل دکھانا جانتے ہی نہیں تھے، تقویٰ کا یہ حال تھا، کہ حرام و مشتبہ مال سے اللہ نے ہمیشہ بچائے رکھا، آخر عمر میں بس اب یہ تمنا تھی کہ وطن (تکیہ کلاں دائرہ شاہ علم اللہ) دائے بریلی میں جا کر ندی کنارے گوشہ نشین ہو کر قرآن و حدیث کے درس میں اپنی عمر صرف کر دیں لیکن ندوہ کی ذمہ داریوں اور مشغولیت نے اس کی اجازت نہیں دی، ندوہ کی نظامت کی ذمہ داری سنبھال کر ایک وصف اور کھل کر سامنے آیا، وہ دوسروں کے جذبات کا لحاظ اور ان کے اختیارات میں دخل نہ دینا اور اپنے اختیارات کے حدود میں دوسرے معتمدین سے مشورہ لینا۔

علمی و ادبی صلاحیت خوب بڑھی ہوئی تھی، تاریخ سے بڑا لگاؤ تھا، خاص طور پر اسلامی ہندی تاریخ میں بلند پایہ رکھتے تھے، بلکہ اس شعبہ کے امام تھے، اس کی کھلی دلیل آپ کی مایہ ناز کتابیں ”نزہة الخواطر“ (جس میں ساڑھے چار ہزار اعیان ہند کا تذکرہ ہے) ۸ جلدوں میں، اور ”الثقافة الإسلامية فی الہند“ (جس میں ہندوستان میں انجام دئے گئے تمام اسلامی علوم

وفنون کا جامع تذکرہ ہے) اور ”الہند فی العہد الإسلامی“ ہیں، اس کے علاوہ ”یادایام“
 ”شرح معلقہ“ ”الغناء فی الإسلام“ ”مگل رعنا“ آپ کی اہم تصنیفات ہیں اور ”تہذیب
 الاخلاق“ ہے جو احادیث رسول اللہ ﷺ کا ایک حسین ترین انتخاب ہے (۱)۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی کتابوں میں مقبولیت رکھی ویسے ہی آپ کی اولاد کو بھی قبولیت و محبوبیت
 عطا فرمائی، بڑے صاحبزادے مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب ہیں جو ایک مدت ندوۃ العلماء کے
 ناظم رہے اور بڑے متبع السنّت عالم و حاذق طیب تھے، اور اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجہ کی فراست و بصیرت
 عطا فرمائی تھی، ان کے ایک فرزند مولانا سید محمد الحسنی مرحوم تھے اور پانچ صاحبزادیاں۔
 دوسرے صاحبزادے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو
 سلف کی یادگار، ملت کی آبرو، اور برکت العصر تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فوض
 و برکات کو خوب عام فرمائے۔ ان دو عالی مرتبت اور قابل فخر فرزندوں کے علاوہ دو صاحبزادیاں بھی
 اپنے پیچھے چھوڑی تھیں، ان میں بڑی صاحبزادی مولانا سید محمد ثانی مرحوم و مولانا سید محمد رابع صاحب
 و مولانا سید محمد واضح صاحب کی والدہ ہیں، رحمہما اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة، ”دوسری صاحبزادی سیدہ
 لبتہ اللہ تسنیم صاحبہ ایک صاحب تصانیف بزرگ خاتون تھیں امام نوویؒ کی کتاب ”ریاض الصالحین“
 کا ترجمہ زاد سنر کے نام سے کیا، جو بڑا مقبول عام ہوا، غفر اللہ لہا و رفع درجاتہا۔
 (تفصیص مولوی محمود حسن ندوی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توحید کا بیان

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

﴿وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لِأَلِهَةِ الْإِلَٰهَاتِ
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾

(بقرہ آیت-۱۶۳)

اور ارشاد ہے:-

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

(بقرہ آیت-۲۵۵)

اور ارشاد ہے:-

﴿شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لِأَلِهَةِ الْإِلَٰهَاتِ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(آل عمران ۱۸)

اور ارشاد ہے:-

اور حصار خدا ایک خدا ہے، بجز اس کے کوئی
خدا نہیں، بے انتہا رحم و کرم کرنے والا، بار بار
رحم کرنے والا۔

اللہ (وہ ہے کہ) کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہ
زندہ ہے سب کا سنبالنے والا ہے، اسے نہ
اوٹھ آسکتی ہے نہ نیند۔

اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اس
کے اور فرشتوں اور اہل علم کی (بھی گواہی یہی
ہے) اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود
ہے، کوئی معبود نہیں ہے بجز اس زبردست
حکمت والے کے۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
(آل عمران آیت۔ ۶۴)

اور ارشاد فرماتا ہے:-

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾
(آل عمران آیت۔ ۷۹)

اور ارشاد ہے:-

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ
فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
(سورة الانعام آیت۔ ۵۹)

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے قول کی
طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے وہ یہ
کہ ہم بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں،
اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرائیں اور ہم میں
سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ
ٹھیرائے پھر پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم
لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرمانبردار ہیں۔

کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے کتاب
اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں
سے یہ کہنے لگے کہ تم میرے بندے بن جاؤ
علاوہ اللہ کے بلکہ (وہ تو یہی کہے گا کہ)
اللہ والے بن جاؤ (یہ) اس لئے (اور بھی) کہ
تم پڑھتے ہو کتاب (آسمانی) کو اور خود بھی
(اسے) پڑھتے ہو۔

اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے انھیں
بجز اس کے کوئی نہیں جانتا اور وہ ہی جانتا ہے
جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے۔ اور کوئی پتہ
نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے اور کوئی
دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی
ترا اور خشک چیز مگر یہ کہ یہ سب روشن کتاب
میں موجود ہے۔

اور ارشاد ہے:-

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَا يَكُونُ
لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً. وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

(سورہ الانعام آیت۔ ۱۰۱-۱۰۲)

اور ارشاد ہے:-

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
(سورہ الحشر آیت۔ ۲۲)

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾

(سورہ الحشر آیت۔ ۲۳-۲۴)

موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے اولاد
کہاں سے ہو سکتی ہے۔ در آنحالیکہ اسکی بیوی
عی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور
وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا
پروردگار کوئی خدا نہیں بجز اس کے، ہر شے کا
پیدا کرنے والا۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ اور
وہی ہر چیز کا کار ساز ہے۔

اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہی
نہایت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا۔
اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ
بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے امن دینے والا
ہے نگہبانی کرنے والا ہے زبردست ہے۔ خرابی کا
درست کرنے والا ہے۔ بڑا عظمت والا ہے۔
پاک ہے اللہ لوگوں کے شرک سے۔ وہی اللہ
تو پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ٹھاک بنانے
والا ہے۔ صورت بنانے والا ہے۔ اسی کے
اچھے اچھے نام ہیں۔ اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو
چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہی
زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اللہ (وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ
 زمرہ ہے سب کا سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ
 لوگھ آسکتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملک ہے جو کچھ
 آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ایسا ہے جو اس
 کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش
 کر سکے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے
 سامنے ہے۔ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس
 سب کو، اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی
 چیز کو بھی گھیر نہیں سکتے سوا اس کے جتنا وہ خود
 چاہے۔ اس کی کرسی نے سجا رکھا ہے آسمانوں
 اور زمین کو۔ اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی
 گراں نہیں۔ اور وہ عالی شان ہے عظیم الشان ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز
 ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی
 اولاد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

بیشک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ
 برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا
 ہے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
 مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(سورہ بقرہ آیت ۲۵۵)

ارشاد ہے:-

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ
 لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
 (سورہ الاخلاص)

اور ارشاد ہے:-

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ
 الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿

(سورہ لقمان آیت ۳۴)

اور ارشاد ہے:-

يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَّفِقُونَ
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

(سورہ یوسف آیت ۴۰)

اور ارشاد ہے:-

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
أَلْمَ الْهَكْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

(سورہ الکہف آیت ۱۱۰)

عمل کرے گا اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ
کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللہ ہی علم والا
ہے خبر رکھنے والا ہے۔

اے یارانِ مجلس جدا جدا معبود اچھے یا اللہ اکیلا
سب پر غالب تم لوگ تو اسے چھوڑ کر بس
(چند) ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور
تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لئے ہیں اللہ
نے کوئی بھی دلیل اس پر نہیں اتاری ہے۔
حکم (اور حکومت) صرف اللہ ہی کا حق ہے،
اسی نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی
پرستش نہ کرو یہ ہی دین مستقیم ہے لیکن اکثر
لوگ علم نہیں رکھتے۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارا ہی جیسا
بشر ہوں میرے پاس تو بس یہ وحی آتی ہے کہ
تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو جو کوئی
اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے تو
اسے چاہئے کہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے
پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ
کرے۔

ارشاداتِ نبوی ﷺ

توحید۔ اسلام کا سب سے پہلا قدم

۱- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا: تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ لہذا تم ان کو سب سے پہلے خدا کو ایک ماننے کی دعوت دینا، جب وہ اس کو سمجھ لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ (بخاری)

توحید ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ

۲- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: معاذ! کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

(پھر فرمایا) کیا تم کو معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جواب میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ (بخاری)

غیب کا علم صرف خدا کو ہے

۳- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ مفتح الغیب (۱) یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو بجز خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا واقعات رونما ہوں گے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بچہ دانیوں میں کیا ہے۔ (زیر یادہ) اور اس کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ بارش کب ہوگی۔ اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کس سر زمین پر ہوگی۔ اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ (بخاری)

ہر کا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے

۴۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: ایک رات حدیبیہ میں تمام رات پانی برسا، صبح کو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، لوگوں نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ آج صبح کے وقت میرے بعض بندے میری قدرت کے قائل ہوئے۔ اور بعض منکر۔ جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی۔ تو یہ میرے مومن بندے ہیں، ستاروں کے منکر ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ پختہ کے سبب سے ہوئی تو وہ میرے منکر ہیں اور ستاروں کے معتقد ہیں۔ (مسلم)

شگون اور رمل کا حکم

۵۔ حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اسلام لائے ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا دور ہے۔ لیکن ابھی ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کائناتوں کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ

(۱) غیب ان پانچ چیزوں ہی میں منحصر نہیں بلکہ بات یہ ہے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان چیزوں کا علم ہو سکتا ہے اور پوچھنے والے بھی زیادہ تر انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اسلئے ان پانچ چیزوں کا نام لے لیا اور ان کو ”مفتح“ کے لفظ سے ادا کر دیا ورنہ غیب غیب ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہاں جتنا اللہ کسی کو بتادے اتنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی خود سے غیب کا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔

ﷺ نے فرمایا تم کا ہنوں کے پاس نہ جانا، میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شگون لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ایک چیز ہے جس کو لوگ اپنے دل میں پاتے ہیں۔ پس ان کو چاہئے کہ یہ چال ان کو کام سے نہ روکے۔ میں نے عرض کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو خط کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک نبی خط کھینچتے تھے تو اگر لوگوں کا خط ان کے خط کے موافق ہے تو ٹھیک ہے (۱) (مسلم)

نحوست اور بد شگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں

۶- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چھوت چھات (۲) کوئی چیز نہیں۔ نہ پرندوں سے شگون (۳) لینا درست ہے نہ ہامہ (۴) کا کوئی وجود ہے اور نہ صفر (۵) (مہینہ میں کوئی نحوست ہے) (بخاری)

اللہ کی یاد، اسی سے سوال، اسی سے استمداد

۷- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھا آپ نے فرمایا، لڑکے! میں تم کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں تم اللہ کے حکموں کی نگہداشت کرو۔ وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو۔ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے جب سوال کرنا تو اللہ ہی سے کرنا، جب مدد چاہنا تو اللہ سے ہی چاہنا۔ جان لو کہ اگر ساری دنیا اس بات پر اتفاق کر لے کہ تجھ سے (۱) اس سے مراد ممانعت ہے کیونکہ جب علم اس خط کے کھینچنے کا مفتور اور معدوم ہو تو اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ یعنی وہ کیا جانے پیغمبر کس طرح خط کھینچتے تھے۔ پس جب نہ معلوم ہو تو حرام ہے۔

(۲) بیماری کا لگنا یا نہ لگنا یہ سب ارادہ الہی پر منحصر ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ لازمی طور سے چھوت کا اثر ہوتا ہے یہ صحیح نہیں، اس میں اسی کی نفی کی گئی ہے۔

(۳) پرندوں سے شگون لینا، ان کے داہنے بائیں اڑنے سے اور کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔

(۴) لو کے بولنے بیٹھنے یا اوپر سے اڑنے کو منحوس جاننا یہ تصور رکھنا کہ یہ منتول کی روح ہے۔ جو قاتل سے انتقام کا مطالبہ کرتی پھرتی ہے، جب انتقام لے لیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے۔

(۵) مختلف مہینوں اور ساعتوں کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ ہر جگہ پایا جاتا رہا ہے، آپ ﷺ نے اس طرح کے عقائد اور خیالات کو باطل قرار دیا، سب مہینے اللہ کے ہیں کسی میں بھی کوئی اچھا کام کیا جاسکتا ہے۔

کو نفع ہو نچائے تو تجھ کو کچھ نفع نہیں ہو نچا سکتی۔ مگر وہی جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری دنیا اس بات پر اتفاق کر لے کہ تجھ کو نقصان ہو نچائے تو نقصان نہیں ہو نچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے گئے اور صحیفے خشک کر دیئے گئے۔ (۱) (ترمذی)

حاجت روا صرف اللہ کو سمجھنا چاہئے

۸- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے۔ یہاں تک کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ (ہی) سے مانگے۔ (ترمذی)

غیر قوموں کا شعار نہیں اپنانا چاہئے

۹- حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (فرماتے ہیں) کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گلے میں سونے کا صلیب پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عدی! اس بت کو (اپنے گلے سے اتار کر) پھینک دو، پھر میں نے آپ کو ”سورۃ البراءة“ کی یہ آیت پڑھتے سنا: ﴿اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ﴾ (۲) (انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عالموں اور راہبوں کو خدا بنا لیا) پھر ارشاد فرمایا وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو یہ لوگ حلال سمجھنے لگتے اور جب کسی چیز کو ان پر حرام کرتے تو یہ اس کو حرام سمجھتے۔ (ترمذی)

(۱) یعنی مقدر کا لکھا اب نہیں مٹ سکتا۔

(۲) اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی بتائی ہوئی حلال چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور حرام بتائی ہوئی چیز کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی عالم اور نہ کوئی بزرگ اور جو ایسا کرنے والے آدمی کی بات مان لے اور اسکے لئے حرام و حلال کرنے کی اجازت سمجھے تو وہ اس وعید میں شامل ہو جائے گا۔

غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت

۱۰- حضرت قیس بن سعد بن عبادہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ میں (مقام) حیرہ گیا، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ (اے اللہ کے رسول) میں حیرہ گیا تھا (تو میں نے وہاں یہ) دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں تب آپ نے فرمایا تم (لوگ) ایسا نہ کرو۔ (۱) (ابوداؤد)

اللہ کی ذات سفارش سے بلند و بالا ہے

۱۱- حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا حضور کو لوگ پریشان ہیں اہل و عیال بھوکے ہیں مال ختم ہو گیا، جانور مر گئے، آپ اللہ سے ہمارے لئے بارش کی دعا فرمائیے۔ ہم آپ سے اللہ کے دربار میں سفارش کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اللہ سے آپ کے دربار میں سفارش چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کی پاکی و بزرگی بیان کرنے لگے۔ اور برابر سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر ظاہر ہونے لگا پھر آپ نے فرمایا۔ تمہارا بُرا ہو، تم کو سمجھنا چاہئے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں چاہی جاسکتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ (ابوداؤد)

(۱) صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا جب دوسرے ملک میں سجدہ کرتے دیکھا تو ان کو بھی خیال پیدا ہوا لیکن انہوں نے خیال پر عمل نہیں کیا بلکہ پہلے دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا اور اپنی آخری وصیت میں ان لوگوں پر لعنت بھیجی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور جشن گاہ بنا لیا تھا۔

نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے

۱۲- حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور شب زفاف میں اس طرح میرے بستر پر بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں (۱) اتنے میں ہماری کچھ بچیاں دف بجانے لگیں اور ہمارے باپ دادوں میں جو کام آئے تھے انکی مرثیہ خوانی کرنے لگیں اتنے میں ایک لڑکی نے کہا اور ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں (۲) آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دو (مت کہو) وہ کہو جو تم کہہ رہی تھیں۔ (بخاری)

بیجا اور حد سے بڑھی تعریف سے ممانعت

۱۳- حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ میری حد سے بڑھی ہوئی تعریف نہ بیان کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے (حضرت) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی غلط اور حد سے بڑھی مدح و توصیف کی۔ میں تو اس کا بندہ ہوں تو تم بھی (مجھے) اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ (۳) (بخاری)

بندہ اور بندی کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جائے گی

۱۴- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص ہرگز نہ کہے میرا بندہ، میری بندی، (اس لئے کہ) تم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہو

(۱) یہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

(۲) غیب دانی کی نسبت اپنی طرف سن کر رسول اللہ ﷺ نے فوراً اصلاح فرمادی تاکہ آگے چل کر عقیدہ نہ بگڑنے پائے۔
(۳) عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں کچھ نے کہا اللہ ان کی صورت میں جلوہ گر ہو گیا ہے اور زیادہ تر نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا اسی طرح اگر اللہ کے رسول ﷺ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے تو مشرک ہو جائے گا، یا کہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں مختار کل ہیں یہ سب ہی شرک کی باتیں ہیں۔

اور تمھاری سب عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، لیکن چاہئے کہ وہ یوں کہیں میرا غلام میری باندی، میرے نوجوان مرد، اور میری نوجوان عورت (میرے لڑکے میری لڑکی) اور غلام (اپنے آقا کو) میرا رب نہ کہے، اس کو چاہئے وہ یوں کہے میرے آقا اور میرے مولا اور ایک روایت میں ہے کہ غلام موٹی بھی نہ کہے اس لئے کہ تمھارا مولا اللہ ہے۔ (مسلم)

قسم صرف اللہ کی کھائی جائے

۱۵- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ (بخاری و مسلم)

نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے

۱۶- حضرت عابس بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا حجر اسود چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ نفع یہو نچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ ﷺ کو چومتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ چومتا۔ (۱) (بخاری و مسلم)

(۱) حضرت عمر نے امت کو عقیدہ کی خرابی سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے جہاں جہاں بیجا عقیدت اور تقدس پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اس کا علاج فرمادیا، یہاں حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسری طرف بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی اس کو بھی کٹوا دیا تاکہ اس درخت سے بیجا وابستگی نہ ہو جائے۔

اخلاص و اللہیت

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾
(سورة البينة آیت ۵)

حالانکہ انہیں یہی حکم ہوا تھا، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، کہ دین کو اسی کے لئے خالص رکھیں، یکسو ہو کر، اور نماز کی پابندی رکھیں، اور زکوٰۃ دیا کریں، یہی طریقہ ہے (ان) درست مضامین کا۔

اور ارشاد ہے :-

﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا، وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ ﴾
(سورة الحج الآتية ۳۷)

اللہ تک نہ انکا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ انکا خون، البتہ اسکے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

اور ارشاد ہے :-

﴿ لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾
(سورة البقرة ۲۶۴)

صدقوں کو احسان رکھ کر اور اذیت پہنچا کر باطل (برباد) نہ کرو۔

اور ارشاد ہے :-

حالانکہ وہ مجھے بہت محبوب تھی، پھر میں نے اس سے روپیہ بھی واپس نہیں لیا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خواہش میں کیا، تو ہمیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرما، تو پتھر کھسک گیا، مگر اتنا کہ نکل نہیں سکے۔

تیسرے نے کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدور کام کے لئے بلائے اور ان کو پوری پوری مزدوری دی، سوائے ایک آدمی کے کہ وہ چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کی کچھ عرصہ میں تجارت خوب نفع لائی، ایک دن وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری دے، میں نے کہا یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، اونٹ، گائے، بکری، غلام سب تمہارے ہیں اور تمہاری مزدوری سے ہیں، اس نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے تو وہ سب لیکر چلا گیا، اے اللہ اگر میری بات تجھے پسند آئی ہو، تو ہم کو اس تنگی سے نجات عطا فرما، چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور سب باہر نکل آئے۔ (بخاری مسلم)

تین ریاکاروں کا انجام

۱۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلا شخص جسکے خلاف قیامت کے دن فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو (میدان جہاد میں) شہید کیا گیا ہوگا، اسے خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا، کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وہ جواب دے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اسلئے جہاد میں حصہ لیا تھا، تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہوں (سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیری بہادری کے چرچے ہوئے، پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا، جس نے علم دین

حاصل کیا ہوگا، اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی، اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی عطا کی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور ان کو کن مقاصد کے لئے استعمال کیا) وہ کہے گا، اے اللہ! میں نے آپ کا علم حاصل کیا، اور دوسروں کو سکھایا، اور آپ ہی کی رضا کے لئے آپ کی کتاب قرآن پاک میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ کہی تو نے تو علم دین اس لئے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لئے پڑھا تھا، کہ عالم و قاری کہا جائے سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیرے عالم و عابد اور قاری ہونے کا چرچا خوب ہو چکا، وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی، اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائے گا، (کہ میں نے تجھے یہ یہ نعمتیں دی تھیں) وہ سب کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور کن مقاصد کے لئے استعمال کیا) وہ عرض کرے گا اے خدا جس جس راستہ میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، درحقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لئے کیا تھا، کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو (اور تیری فیاضی و داد و دہش کے چرچے ہوں) سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں) تیری فیاضی و داد و دہش کے خوب چرچے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکے لئے بھی حکم ہوگا، اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم)

صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لئے ہو

۱۹- حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں،

جس نے جہاد کیا اور اس نے (جہاد کے ذریعہ) اجر (ثواب) اور شہرت چاہی، اس کو کیا ملے گا، تین بار اس شخص نے اپنے سوال کو دہرایا، اور ہر بار رسول اللہ ﷺ بھی فرماتے رہے، کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے گا، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے، جو صرف اسی کے لئے کیا گیا ہے، اور اسی کی رضا جوئی مد نظر ہو، (ابوداؤد، نسائی)

اللہ کی خوشنودی اخلاص سے اسکی عبادت و اطاعت کرنے میں ہے
 ۲۰۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض تمہا خدا کی خاطر اور کسی غیر کو اسکی عبادت میں شریک کئے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوا، نماز کا اہتمام کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، وہ اس حال میں وفات پائے گا کہ اللہ جل شانہ، اس سے راضی ہوئے۔ (ابن ماجہ)

دنیوی فائدے کے لئے دینی علم سیکھنے والے کا برانجام
 ۲۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس کو دنیا کے کسی فائدہ کے لئے سیکھتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ (ابوداؤد)

اللہ جل شانہ، ہر قسم کی شرکت سے بے نیاز اور سخت بیزار ہے
 ۲۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں (۱)، جو شخص کوئی عمل (عبادت وغیرہ) کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک (۱) یعنی جس طرح اور شرکاء شرکت پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ کسی کی شرکت منظور کر لیتے ہیں اس طرح میں راضی نہیں ہوتا، کسی کی ادنیٰ شرکت گوارا نہیں کر سکتا، ہر قسم کی شرکت سے بالکل بے نیاز اور سخت بیزار ہوں۔ (معارف الحدیث)

کرے (یعنی اس سے اس کی غرض میری رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور سے بھی کچھ حاصل کرنا یا اس کو معتقد بنانا ہو) تو میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ (مسلم)

بزرگوں کے بھیس میں آکر دھندا کرنے والوں کی عبرتناک سزا

۲۳- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا!

آخری زمانہ میں کچھ ایسے (مکار) لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، وہ لوگوں پر اپنی درویشی و فقر (بزرگی) ظاہر کرنے (اور ان کو متاثر کرنے کے لئے) بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے، (ان کے بارے میں) اللہ کا فرمان ہے یہ لوگ (میرے ڈھیل دینے اور فوری پکڑنے کرنے سے دھوکا کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر) میرے مقابلہ میں جرأت کر رہے ہیں، مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان (مکاروں پر انہی میں سے ایک ایسا فتنہ کھڑا کروں گا، جو ان میں سے عقلمندوں اور داناؤں کو بھی حیران و پریشان بنا کے چھوڑے گا۔ (ترمذی)

تین باتیں دل کے مرض کا تریاق ہیں

۲۴- حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد

فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، جس نے میری بات سنی اور اسے (بغیر کسی کمی یا زیادتی کے) دوسروں تک پہنچایا، تین (۱) باتیں ایسی ہیں کہ (ان کے ہوتے ہوئے) مسلمانوں کا دل فریب نہیں کھاتا۔ عمل کو اللہ کے لئے خالص کرنا، ۲- مسلمانوں کے رہنماؤں کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک کرنا۔ ۳- مؤمنین کی جماعت سے الگ نہ ہونا، (کیونکہ) ان کی دعائیں ان لوگوں کو بھی اپنے دامن میں لے لیتی ہیں، جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جس شخص کا مقصد و نیت (صرف)

(۱) جس شخص کے اندر حدیث میں مذکور صفات پائی جائیں گی، اس کا دل ہر قسم کی کدورت و خیانت سے پاک اور ہر طرح کے بگاڑ اور کجی سے محفوظ رہے گا۔ (مجمع بحار الانوار)

دنیا طلبی ہوگی، فقر و فاقہ (کاڈر) اس پر مسلط کر دے گا، اس کی جائداد کو پراگندہ کر دے گا، اور ملیگا اسے اتنا ہی جتنا مقدر ہو چکا ہے، اور جس شخص کا مقصد و نیت آخرت طلبی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور اس کی جائداد کی نگہداشت کرے گا، اور دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں پر گرے گی۔
(مسند احمد۔ دارمی۔ ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے
۲۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ شکلوں (صورتوں) کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر رہتی ہے۔
(مسلم)

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے

۲۶۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ تمام انسانی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے (۱) ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا، جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہوگی، اور جو دنیا کے حصول کے لئے کرے گا، یا کسی عورت سے نکاح کے لئے کرے گا، تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہوگی، جس کے لئے ترک وطن کیا۔ (بخاری و مسلم)

(۱) تمام اعمال کے صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا، اور اسی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی، جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو ”عمل صالح“ کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو، وہ صالح و مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد و مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں ”صالح“ ہی معلوم ہو۔
(معارف الحدیث)

کتاب و سنت

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

﴿مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

(الانعام آیت ۳۸)

ہم نے اپنے رجسٹر میں کوئی چیز نہیں
چھوڑ رکھی ہے۔

اور ارشاد ہے:-

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ﴾

(نساء آیت ۵۹)

پھر اگر تم میں باہم اختلاف ہو جائے کسی چیز
میں تو اسکو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
لوٹا لیا کرو۔

اور ارشاد ہے:-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا﴾

(نساء آیت ۶۵)

سو آپ کے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ
ایماندار لوگ نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ
اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو آپ
کو حکم نہ بنالیں پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس
سے اپنے دلوں میں سختی نہ پائیں اور اس کو پورا
پورا تسلیم کر لیں۔

اور ارشاد ہے:-

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ (رسول) ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾
(تور آیت ۵۱)

اور ارشاد ہے:-

تو رسول جو کچھ تم کو دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس سے وہ تمہیں روک دیں رک جا لیا کرو۔

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
(حشر آیت ۷)

اور ارشاد ہے:-

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
(آل عمران آیت ۳۱)

اور ارشاد ہے:-

رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لئے، یعنی اسکے لئے جو ڈرتا ہو اللہ اور روزِ آخرت سے، اور ذکرِ الہی کثرت سے کرتا ہو۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾
(احزاب۔ آیت ۲۱)

اور ارشاد ہے:-

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
 (نور، آیت ۶۳)

ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے
 ہیں ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان پر (دنیا ہی میں)
 آفت نازل ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک
 عذاب آپڑے۔

سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد ﷺ کا طریقہ ہے

۲۷- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے، فرماتے فرماتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آواز تیز ہو گئی، غصہ زیادہ ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں، جو صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے، اور آپ نے فرمایا میری پیدائش اور قیامت اس طرح قریب ہے جس طرح شہادت اور بیچ کی انگلی اور فرماتے تھے: اما بعد! بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین طریقہ محمد (ﷺ) کا طریقہ ہے۔ بدترین کام نئی نئی باتیں (بدعتیں) ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے! میں ہر مومن کا اسکے نفس سے زیادہ مستحق ہوں۔ اگر کسی شخص نے مال چھوڑا تو وہ اس کے گھر والوں کے لئے ہے اور جس نے قرض یا بچے چھوڑے اسکی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ (مسلم)

ہر بدعت گمراہی ہے

۲۸- حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسی بلیغ و موثر نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل دہل گئے۔ اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ نصیحت تو ایسی ہے گویا ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ میں تم کو تقویٰ (یعنی خدا کے پاس و لحاظ) کی وصیت کرتا ہوں۔ اور سن کر اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام ہی حاکم ہو۔ اور تم میں جس کی عمر دراز ہوگی وہ بہت اختلاف (انتشار) دیکھے گا۔ تو چاہئے کہ میری اور خلفائے راشدین کی

سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑے اور نئی نئی باتوں سے بچے۔ دین کے اندر پیدا کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اور بدعت گمراہی ہے۔ (۱) (ابوداؤد، ترمذی)

اطاعت میں نجات اور نافرمانی میں ہلاکت ہے

۲۹- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری مثال اور اس پیغام کی مثال جیسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس شخص کی سی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا، پھر کہا، اے لوگو! میں نے خود لشکر کو دیکھا ہے میں برہنہ (کھلا ہوا) ڈرانے والا ہوں (۲)۔ بچنے کی تدبیر کرو، اس اطلاع کے بعد اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی، اور رات رہے بہت ترکے وہاں سے نکل لئے اور اطمینان کے ساتھ چل دئے۔ اور خطرہ سے بچ گئے۔ کچھ نے اس ڈرانے والے کو جھٹلایا اور وہیں (مقیم) رہے، صبح ہوتے ہی لشکر ان پر حملہ آور ہوا۔ اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجاوی۔ (تو پہلی) اس شخص کی مثال ہے جس نے میری بات مانی، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں (یعنی شریعت) اس پر عمل کیا۔ اور

(۱) کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین میں شامل نہ کیا ہو اور اس کا حکم نہ دیا ہو، دین میں شامل کر لینا اور اس کا جزو بنانا، اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لئے کرنا، اسی کی کسی خود ساختہ شکل اور اپنے وضع کئے ہوئے شرائط اور آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک شرعی حکم کی پابندی کی جاتی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کسی کی تخصیص اور استثناء نہیں، جو اس میں کسی کو مستثنیٰ کرتا ہے، وہ گویا بقول مجدد الف ثانی کہتا ہے بعض بدعتیں گمراہی ہیں اور بعض۔۔۔۔۔۔ یہ حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور امام مالک نے یوں فرمایا ہے اور کیا خوب فرمایا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا کی اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد ﷺ نے (نعوذ باللہ) پیغام پہنچانے میں خیانت کی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، پس جو بات عہد رسالت میں دین میں نہیں تھی وہ آج بھی دین میں نہیں ہو سکتی ہے۔ (علمائے دین شرک و بدعت کے خلاف کیوں)

(۲) زمانہ جاہلیت میں خطرہ سے ڈرانے کے لئے آدمی برہنہ ہو کر اور کپڑے سر پر رکھ کر دوڑا ہوا آتا تھا، اور قوم کو آگاہ کرتا تھا، پھر یہ لفظ محاورہ کے طور پر بولا جانے لگا۔

(دوسری) اس شخص کی مثال ہے جس نے میری بابت نہ مانی اور میری لائی ہوئی حق باتوں (شریعت) کو جھٹلایا۔ (بخاری)

ہر حال میں کتاب و سنت پر عمل اور حق بات کہنے کی جرأت

۳۰- حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت کی، کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے تنگی میں، آسانی میں، راحت میں، اور تکلیف میں خواہ ہم پر بے انصافی کی جائے۔ یا خود غرضی اور نیز اس بات پر کہ ہم حکومت میں حکومت والوں سے نہ لڑیں (۱) جب تک کھلا ہوا کفر نہ دیکھ لیں، اور اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، اور اس پر کہ حق بات کہیں جہاں بھی ہوں، اور اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں۔ (بخاری و مسلم)

کامیابی آپ کی چال چلنے میں ہے

۳۱- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں، کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک ایسا کام کیا جسکے اندر سہولت تھی (۲)، کچھ لوگوں نے اس سہولت کو کم درجہ کا سمجھ کر نہ اپنایا، رسول اللہ ﷺ کو انکے اس عمل کی خبر پہنچی، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنایان کی، پھر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ وہ اس عمل سے بچتے ہیں، جس کو میں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور ان سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ (بخاری)

علم کس طرح اٹھے گا

۳۲- حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

(۱) مسلمان اہل حکومت کے متعلق یہ حکم ہے۔

(۲) یعنی شادی بیاہ کرنا، کچھ دن روزہ رکھنا، کچھ دن نہ رکھنا، اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نہ شادی بیاہ کریں گے نہ کبھی روزہ افطار کریں گے اور نہ رات کو سوئیں گے، اس کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے۔

ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ نے تم کو علم دیا ہے تو اس کو اس طور سے نہیں اٹھائے گا، کہ لوگوں کے دلوں سے دور کر دے، بلکہ علماء کو اٹھالے گا، اور علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جاہل لوگ رہ جائیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، تو وہ اپنی رائے سے مسئلہ بتائیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (بخاری)

سنت سے بے رخی آپ سے بے تعلقی ہے

۳۳- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، جو میری سنت (طریقہ) سے اعراض کرے گا (اسکو چھوڑ دے گا) وہ ہم میں سے نہیں ہے (اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں) (مسلم)

جس نے دین میں نئی چیز پیدا کی

۳۴- حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز پیدا کی، جو اس میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے (نا قابل توجہ ہے)۔ (بخاری و مسلم)

اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جسکے بگڑ جانے سے تم ڈر رہے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو (یہ سب) تم کو اللہ اور اسکے رسولؐ سے اور اسکی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا،
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا، أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ،
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾
(التوبة، آیت: ۲۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، سو اللہ عنقریب ایسے لوگوں کو (وجود میں) لے آئے گا جنہیں وہ چاہتا ہو گا اور وہ اسے چاہتے ہوں گے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَمَا يَتَّبِعِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ﴾
(المائدة، آیت: ۵۴)

اور ارشاد ہے:

اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾
(البقرة، آیت: ۱۶۵)

حلاوت ایمانی کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں

- ۳۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت (چاشنی ولذت) محسوس ہوگی۔
- ۱۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو مساوی سے زیادہ محبوب ہوں۔
 - ۲۔ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے۔
 - ۳۔ وہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔
- (بخاری و مسلم)

رسول اللہ ﷺ کی محبت سب پر غالب ہونی چاہئے

- ۳۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اہل و عیال، مال و دولت اور تمام لوگوں کی محبت پر غالب (اور زیادہ) نہ ہو جائے۔
- ۳۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اور مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اولاد، اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ (بخاری)

جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا

- ۳۸۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے فرمایا: ایک اعرابی (بدو) نے حضور ﷺ سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس اعرابی نے کہا، اللہ اور رسول کی محبت (جواب میں) حضور ﷺ نے فرمایا: تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو گے۔ (اس پر) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، مجھے (خدا سے) امید ہے کہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گا چاہے ان کے جیسے کام نہ کر سکوں۔ (مسلم)

۳۹۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرض کیا، اے رسول اللہ! ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے لوگوں سے محبت کی، لیکن ان کے مرتبہ کا نہیں ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، مومن جس کو چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ (مسلم)

کسی ولی سے نفرت اور دشمنی رکھنے والے کے خلاف

اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ

۴۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو میرے دوست (ولی) سے دشمنی رکھے گا (۱) میں نے اس سے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ میرے بندوں کا فرائض سے نزدیکی (قرب) حاصل کرنا جس قدر مجھے محبوب ہے اس قدر کسی نیکی سے نزدیکی مجھ کو محبوب نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ (۲) (بخاری)

(۱) اللہ کے "ولی" کی سب سے بڑی پہچان جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ فرائض کی مکمل پابندی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، نماز باجماعت، دوسری عبادات، حقوق واجبہ کی ادائیگی اور نیکی کے کاموں میں سبقت ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا خود معمول تھا۔

(۲) اس مقبولیت کے آثار لوگوں کے برتاؤ میں، اخلاق میں فوراً ظاہر ہوتے ہیں جن کو معمولی قسم کا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں، تیور، انداز، سب بدل جاتے ہیں۔ اور دنیا اس کے لئے وہ دنیا نہیں رہتی جو ہمیشہ سے تھی، ایک عارف کا قول ہے کہ مجھے خدا کی محبت و نثار انگلی کا اندازہ اپنی سواری کے جانوروں اور ملازمین کے طرز عمل اور معاملہ سے ہو جاتا ہے۔ جب خدا خوش ہوتا ہے اور میرا معاملہ اس سے درست ہوتا ہے تو میرے سب تابعدار اور سعادت مند ہوتے ہیں ورنہ سب کی نگاہ اور تیور بدلے ہوتے ہیں۔

اہل بیت کی محبت

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو خوب نکھار دے۔

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الاحزاب، آیت: ۳۳)

اور ارشاد ہے:

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا ہاں رشتہ داری کی محبت ہو۔

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الشوری، آیت: ۲۳)

اور ارشاد ہے:

اور جو کوئی (دین) خدا کی یادگاروں کا ادب رکھے گا سو یہ (ادب) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج، آیت: ۳۲)

اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے

۳۱۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ (مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع) خم نامی تالاب (غدیر خم) کے پاس کھڑے خطبہ دے رہے تھے آپ نے حمد و ثنا اور وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، ابا جعد! میں بھی ایک آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے

پروردگار کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کو قبول کروں (اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں) میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اول اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ پس تم اللہ کی کتاب لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، پھر اللہ کی کتاب کی ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا۔ میرے گھر والے، میں تم کو یاد دلاتا ہوں ان کے بارے میں اللہ کو، تم کو یاد دلاتا ہوں ان کے بارے میں اللہ کو۔ (۱)

(مسلم)

اہل بیت کی فضیلت

۳۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول ﷺ صبح کو نکلے، آپ کالے بالوں کی (کامدار) چادر اوڑھے ہوئے تھے، جس میں اونٹوں کے کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے ان کو چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے وہ بھی (حضرت حسن کے ساتھ) چادر میں آگئے (تھوڑی ہی دیر میں) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں، ان کو بھی آپ نے چادر میں کر لیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے، ان کو بھی آپ نے اسی چادر میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (اے اہل بیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور

(۱) اس حدیث میں اہل بیت کی بڑی منقبت اور فضیلت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت کو اہل بیت سے محبت ہونی چاہئے۔ (متنہی الافکار) موٹا کی ایک روایت اور بعض دوسری مرتب روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو اہم اور غیر معمولی چیزیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ہیں۔ جن کی تائید قرآن مجید کی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ اس روایت کے الفاظ سے دوسری چیز کا اہل بیت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ حدیث شریف کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے حقوق کی طرف توجہ دلائی مقصود ہے۔ تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو اور رسول اللہ ﷺ کے تعلق کی وجہ سے جو حقوق ہیں انکو نبھائے جائیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ شرح حدیث ثقلین از مولانا عبدالشکور لکھنوی، ترجمان السنہ جلد اول از مولانا بدر عالم میرٹھی، تحفہ اثنا عشریہ از حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی۔

(مسلم)

فرمادے۔ اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ (۱)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ

۲۳۔ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: فاطمہ میری جزو (بدن) ہے۔ (میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے) جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ (بخاری)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی محبوبیت

۲۴۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسن بن علیؓ آپ ﷺ کے کندھے پر چڑھے ہیں اور رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ (بخاری)

سیدنا حسنؓ کی رسول اللہ ﷺ سے مشابہت

۲۵۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی سے زیادہ کوئی رسول اللہ ﷺ سے مشابہ نہ تھا۔ (بخاری)

جگر گوشہ رسولؐ کے بد بخت قاتلین کی مذمت

۲۶۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عراق والے مکھی کے مارنے کا مسئلہ تو پوچھتے ہیں (حالانکہ انہی لوگوں نے) رسول اللہ ﷺ کی بیٹی (حضرت فاطمہؓ) کے لاڈلے (حضرت حسینؓ) کو قتل کر ڈالا۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں (حسن و حسین رضی اللہ عنہما) کو دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ (بخاری)

(۱) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ محققین اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اگرچہ آیت میں خطاب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ہے، لیکن اہل بیت اس بشارت میں داخل ہیں۔ (تحفہ اشاعرہ)

اہل بیت کرام میں سب سے زیادہ محبوب حضرات حسنین ہیں

۴۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: حسن و حسین۔

آپ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بچوں کو بلاؤ پھر آپ ان دونوں کو سونگھتے اور لپٹاتے۔
(ترمذی)

نوجوانانِ اہل جنت کے سردار

۴۸۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسن و حسین جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
(ترمذی)

حضرت علیؑ کی محبت ایمان کی علامت

۴۹۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اور وہ تمام مومنوں کے محبوب ہیں۔ (ترمذی)

۵۰۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ (۱)
(ترمذی)

(۱) ردافض (شیعوں) نے اس حدیث (من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں) کو توڑ موڑ کر اپنے من چاہے معنی پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے حضرت علی کی امامت و خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ایک مجتہد نے اس کے ثبوت کی خاطر کئی جلدیں لکھ ڈالیں لیکن اس میں صرف بات کا بتکڑ بنانا اور کاغذی عمارت تعمیر کرنی چاہی ہے۔ جو لا حاصل اور بے سود ہے (مثنوی الافکار) یوں حدیث سند کے اعتبار سے اس درجہ کی نہیں کہ اس سے ایسا اہم استدلال کیا جاسکے۔ دوسرے شواہد سے وہ بس ”درجہ حسن“ تک پہنچتی ہے۔ (حاشیہ جامع الاصول از عبدالقادر رانا کوٹ)

حضرت علیؑ کا مقام و مرتبہ

۵۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم دنیا و آخرت دونوں جگہ میرے بھائی ہو۔ (ترمذی)

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کی فضیلت و مرتبہ

۵۲۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی کسی زوجہ (بیوی) پر رشک نہیں کیا سوائے (حضرت) خدیجہؓ کے۔ حالانکہ میری شادی سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ مگر آپ ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم فرمایا تھا کہ ان (خدیجہؓ) کو موتی کے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دے دیں۔ آپ جب کوئی بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہؓ کی سہیلیوں کو اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لئے کافی ہوتا۔ (بخاری شریف)

حضرت عائشہؓ کی فضیلت

۵۳۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما (تابعی) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اے ام سلمہؓ تم مجھے عائشہؓ کے بارے میں تکلیف نہ دو (ا) عائشہ کے علاوہ تم میں کوئی نہیں ہے جس کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہو۔ (بخاری شریف)

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ازواج مطہرات میں بڑا بلند مرتبہ تھا جیسا کہ اس روایت اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرامؓ یہ جانتے تھے اس لئے حضرت عائشہ کے دن کے لئے ہدیے تھے انھار کتے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ کے پاس جب نبی کریم ﷺ کا قیام ہوتا تو ہدیے زیادہ آتے۔ اس سلسلہ میں دوسری ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعہ کہلوایا اور شکایت کی اس پر رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے: تفصیلی حالات کے لئے سیرت عائشہ از حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ملاحظہ ہو۔

صحابہ کرام کی محبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ،
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، يَتَتَفُونَ فَضْلًا مِّنَ
اللَّهِ، وَرِضْوَانًا، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مِنَ آثَرِ السُّجُودِ. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، كَزَرْعٍ
أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ،
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

(الفتح، آیت: ۲۹)

محمد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ تیز ہیں کافروں کے مقابلہ میں، مہربان ہیں آپس میں تو انہیں دیکھے گا کہ (کبھی) رکوع کر رہے ہیں (کبھی) سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں ان کے آثار سجدہ کی تاثیر ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں ان کا وصف یہ ہے کہ وہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا پھر وہ اور موٹی ہوئی پھر اپنے تہ پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگے۔ (یہ نشوونما صحابہ کو اس لئے دیا) تاکہ کافروں کو ان سے جلانے اور اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

اور ارشاد ہے:

اور جو مہاجرین و انصار میں سے سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگوں نے نیک کرداری میں ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اس نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی ان میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
(التوبة، آیت: ۱۱۰)

اور ارشاد ہے:

تم میں سے جو لوگ فتح (مکہ) سے پہلے ہی خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ ان کے برابر نہیں جو بعد فتح لڑے اور خرچ کیا، وہ لوگ درجہ میں بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد کو خرچ کیا اور لڑے اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ تو سب سے ہی کر رکھا ہے اور اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، وَقَاتَلَ. أُولَئِكَ أَكْبَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

(الحديد، آیت: ۱۰)

صحابہؓ کو ہدف ملامت بنانے کا نتیجہ

اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ ہے

۵۴۔ حضرت عبد اللہ بن فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف رکھنا اور میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ بنانا۔ (یاد رکھو) جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے محبت رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ جو ان کو تکلیف دے گا اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے

تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا تو قریب ہے کہ وہ گرفت کر لے۔ (۱) (ترمذی)

نبوی صدی سب سے زیادہ روشن اور افضل صدی

۵۵۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری

امت کے بہترین لوگ میری صدی (زمانہ) کے ہیں پھر وہ لوگ (تابعین) ہیں جو ان کے متصل

ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ (تابع تابعین) ہیں جو ان کے متصل ہیں۔ (۲)

عمران کہتے ہیں کہ یہ یاد نہیں کہ پہلی صدی کے بعد دوبار فرمایا یا تین بار۔ پھر ایسے

لوگ (پیدا) ہوں گے کہ بغیر طلب گواہی دیتے پھریں گے، خیانت کریں گے، ان میں امانت نہ

ہوگی۔ (اور نہ ان پر اعتماد کیا جائے گا۔ نذریں مانیں گے، پوری نہ کریں گے۔ اور ان میں مٹاپا

(۳) پیدا ہوگا۔ (بخاری)

صحابہ کرام سب سے برگزیدہ اور برتر لوگ

۵۶۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

لوگوں میں سب سے بہتر لوگ میری صدی (زمانہ) کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔

پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے

ہوگی۔ اور قسم گواہی کو مات دے دے گی۔ (۴) (بخاری)

(۱) صحابہ کرام سے بغض کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے سکے گا۔

(۲) کیونکہ شہ رسالت سے جو جتنا قریب ہو گا اتنا ہی منور و روشن ہوگا۔ صحابہ کرام اسی شہ کے پروانے ہیں۔

(۳) مجاہدہ اور محنت سے بچیں گے، عیش پسندی اور راحت طلبی پیدا ہو جائے گی۔

(۴) بے جھجک وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ نہ اللہ کا خوف مانع ہو گا نہ معاشرہ سے شرم۔

صحابہ کرام کا معمولی صدقہ ہمارے بڑے صدقات پر بھاری ہے
 ۵۷۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 میرے صحابہ کو برانہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے (اس
 خرچ کرنے والے) کا ثواب ان کے ایک مد (سیر بھر) یا آدھ مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں
 ہو سکتا۔ (بخاری)

جنگ بدر میں شریک صحابہ و فرشتوں کا مرتبہ

۵۸۔ حضرت رافع بن رفاعہ فرماتے ہیں، حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے
 پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اہل بدر کو آپ کس شمار میں سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا (ہم ان کو)
 مسلمانوں میں افضل ترین سمجھتے ہیں۔ یا اسی طرح کی کوئی بات فرمائی۔ حضرت جبرئیل نے فرمایا۔
 یہی حکم ان فرشتوں کا ہے جو بدر میں شریک تھے۔ (بخاری)

شرکاء بدر و حدیبیہ کی فضیلت

۵۹۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، میں
 پوری امید کرتا ہوں کہ جو بھی بدر و حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔
 انشاء اللہ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے ”وان منکم الا
 واردھا“ اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا گذر اس تک نہ ہوا ہو (رسول اللہ ﷺ نے
 ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں سنا ہے وہ فرماتا ہے ”ثم ننجی الذین اتقوا“ (پھر انھیں ہم نجات دے
 دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے) (ابن ماجہ)

مسلم کی ایک روایت حضرت ام بشر سے ہے کہ اصحاب شجر میں سے کوئی بھی جہنم میں
 نہیں جائے گا، جس نے اس کے نیچے بیعت کی۔

۶۰۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ہم صلح حدیبیہ کے وقت چودہ سو تھے، (تو ہم کو مخاطب کرتے ہوئے) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ آج روئے زمین پر تم (لوگ) سب سے بہتر ہو۔
(بخاری و مسلم)

انصار سے محبت ایمان کی علامت اور بغض نفاق کی علامت

۶۱۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے بارے میں فرمایا، کہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، اور بغض (نفرت) رکھنے والا منافق، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، اللہ اس سے بغض رکھے گا۔
(بخاری)

حضرت ابو بکرؓ کا مقام

۶۲۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں (خدا کے سوا) کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔ (۱)

حضرت عمرؓ کی خصوصیت

۶۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ صاحب الہام (۲) ہوئے تھے، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو

(۱) حضرت ابو بکر کے فضائل بی شمار ہیں، حضرت عمر اپنے عہد خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق صرف غار ثور والی رات کی خدمت اور قتال مرتدین کا کارنامہ مجھے دیدیں اور میری ساری عمر کے تمام اعمال لے لیں تو میں ہی فائدہ میں رہوں گا، خلیفہ رسول کا خطاب بھی صرف انہی کے لئے استعمال ہوا۔

(۲) جس قدر خوارق عادات اور مکاشفات کا ظہور حضرت عمر سے ہوا کسی صحابی سے منقول نہیں، آپ کی رائے کے موافق وحی کا نزول، ساریہ الجبل اور دریائے نیل کا واقعہ اسکے شاہد عدل ہیں۔

یقیناً وہ عمر ہیں۔

(بخاری)

حضرت عثمانؓ کی حیا

۶۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا (شرم) کرتے ہیں (۱)۔ (مسلم)

حضرت علیؓ کی فضیلت

۶۵۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبہ پر حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کی طرف سے تھے۔ (۲) (بخاری)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی برکت سے بارش ہونا

۶۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن الخطاب حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگتے، اور کہتے اے اللہ! ہم تیرے دربار میں اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، تو بارش نازل فرماوے، بارش ہو جاتی تھی۔ (بخاری)

حضرت زبیر بن العوامؓ کا امتیاز

۶۷۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں میرے مددگار زبیرؓ ہیں۔ (بخاری)

(۳) سیحی کا نتیجہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل بھی کوئی نازیبا کام آپ نے نہیں کیا، یہاں تک کہ محاصرہ کے زمانہ میں جو کئی دن تک جاری رہا کوئی سخت جملہ زبان سے ادا نہیں فرمایا۔

(۲) امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں اس کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق یہ کثرت نہیں۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کی قربانی

۶۸۔ حضرت قیس بن حازم سے روایت ہے کہ غزوہ اُحد کے دن میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل دیکھا، اس ہاتھ سے انھوں نے نبی کریم ﷺ کی حفاظت کا فرض انجام دیا تھا۔

(بخاری)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی خاص فضیلت

۶۹۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنا کہ آپ نے جمع کئے ہوں کسی کے لئے اپنے مال باپ سوائے سعد بن ابی وقاص کے، غزوہ اُحد کے دن میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، میرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔ (۱) (بخاری و مسلم)

حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کا رتبہ

۷۰۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے نبیؐ کی دعا

۷۱۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے سینہ سے لگایا، اور دعا دی اے اللہ اس کو حکمت سکھا دے۔ (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا صلاح و تقویٰ

۷۲۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ عبد اللہ نیک صالح (نیک بخت) ہیں۔ (بخاری)

(۱) اس سے حضرت سعدؓ کے مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی رسول اللہ ﷺ سے مشابہت

۷۳۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو چال ڈھال اور شکل و صورت میں رسول اللہ ﷺ سے بہت قریب ہوتا کہ اس سے یہ چیز حاصل کریں (اور اس کی پیروی کریں) انہوں نے فرمایا: میں ابن ام معبد (حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ) سے بڑھ کر کسی کو شکل و صورت اور چال ڈھال میں رسول اللہ ﷺ سے قریب تر نہیں پاتا۔ (بخاری)

حضرت سعد بن معاذ (انصاری) رضی اللہ عنہ

کے انتقال پر عرش الہی کی جنبش

۷۴۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر عرش الہی ہل گیا۔ (بخاری)

چار قرآن والے صحابہؓ

۷۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے، ان چار سے قرآن سیکھو، ۱۔ عبد اللہ بن مسعود، ۲۔ سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ۳۔ ابی بن کعب اور ۴۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم (۱)۔

حضرت عبد اللہ بن سلامؓ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت

۷۶۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کسی کے متعلق جو زمین پر چل پھر رہا ہو فرماتے نہیں سنا کہ یہ جنت والوں میں سے ہے سوائے عبد اللہ بن سلامؓ کے۔ (بخاری)

(۱) یہ چاروں حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید براہ راست خاص طور سے حاصل کیا اور سیکھا تھا۔

اللہ کے محبوب رسول کے محبوب صحابی

۷۷۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت کے معاملہ نے قریش کو فکر مند کر دیا، انہوں نے کہا اس معاملہ میں (سفارش کی) کون ہمت کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ ﷺ کے محبوب اسامہ بن زید کے (کہ یہ جرأت وہ ہی کر سکتے ہیں) (بخاری)

حضرت جعفر بن ابی طالب کی منقبت

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت) جعفر سے فرمایا کہ: اخلاق و عادات اور شکل و صورت میں تم میرے مشابہ ہو۔ (ترمذی)

دوستی ہو یا دشمنی خدا کے لئے ہو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنکے دلوں میں خدا نے ایمان (پتھر کی لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض نبی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں میں جنکے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش۔

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، أَوْ
أَخْوَانَهُمْ، أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
مِّنْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

(المجادلة، آیت: ۲۲)

اور ارشاد ہے۔

تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور
مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ
دیتے ہیں اور (خدا کے آگے) جھکتے ہیں۔

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

(المائدة، آیت: ۵۵)

اور ارشاد ہے۔

مومنوں کو چاہئے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو
دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کریگا اس سے خدا کا
کچھ (عہد) نہیں۔ ہاں اگر اس طریقہ سے تم ان
(کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو۔ (تو
مضائقہ نہیں)

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تَقَاةً﴾ (آل عمران، آیت: ۲۸)

عرش کا سایہ

۷۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن فرمائے گا میری عظمت و بڑائی کی وجہ سے جو آپس میں محبت کرتے تھے وہ کہاں
ہیں۔ آج میں ان پر اپنا سایہ کروں گا آج میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ (مسلم)

اللہ کی محبت ان لوگوں کے لئے

۸۰۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے
ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے لئے باہم محبت کرنے والوں اور میرے واسطے ایک
دوسرے کے پاس بیٹھنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے جلنے والوں اور میری ہی رضا
کے لئے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لئے میری محبت واجب ہو گئی۔

(موطأ امام مالک)

مسلمان بھائی سے ملاقات کے لئے جانا

۸۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک
شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے دوسری بستی روانہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ
میں ایک فرشتہ مقرر کیا جب یہ اس کے پاس سے گذرا تو فرشتہ نے کہا۔ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو اس

فخص نے جواب دیا میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ نے کہا۔ کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے جو اس کو بھاتے ہو اس نے کہا نہیں۔ مجھکو اس سے لگتی محبت ہے فرشتہ بولا، میں اللہ کا قاصد ہوں بیشک اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی جیسے تم نے اس کے لئے محبت کی (مسلم)

اللہ تعالیٰ کی محبت ماسوا سے زیادہ ہو

۸۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں دوسری بات یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو لگتی محبت کرے تیسری بات یہ کہ کفر کی طرف واپس ہو جانا جس سے اللہ نے اس کو بچایا ہے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ (بخاری و مسلم)

سات قسم کے لوگ عرش کے سایہ میں

۸۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سات آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ”قیامت کے دن“ اپنا سایہ کرے گا جس دن بجز اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ۱۔ مصحف حاکم ۲۔ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشوونما پائی ۳۔ نماز کا ایسا پابند شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے ۴۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لئے محبت کریں، ملیں تو اس کے لئے ملیں جدا ہوں تو اسی کے لئے جدا ہوں ۵۔ ایسا شخص جس کو ذی حیثیت اور حسین و جمیل عورت معصیت کی دعوت دے اور وہ یہ کہتا ہو انکار کر دے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں ۶۔ ایسا شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے (قریب ترین شخص کو بھی صدقہ کرنے کا علم نہ ہو) ۷۔ ایسا شخص جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور اسکے آنسو بہنے لگیں۔ (بخاری و مسلم)

کام خالص اللہ کے لئے کرنا چاہئے

۸۴۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس نے خدا کے لئے محبت کی اور خدا کے لئے غصہ کیا خدا کے لئے دیا اور خدا کے لئے روکا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ (ابوداؤد)

۸۵۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ مسلمان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے اور کسی سے ناراض ہو تو خدا کے لئے ناراض ہو۔ (ابوداؤد)

مسلمان کی اہمیت

۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یا اللہ کے لئے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے (۱) تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے مبارک ہو تیرا چلنا مبارک ہو تم نے جنت میں ایک جگہ بنالی۔ (ترمذی)

جس سے محبت ہو اس کو بتادے

۸۷۔ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو بتادے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں (۲)۔ (ابوداؤد و ترمذی)

(۱) اس دولت اور اجر و ثواب سے لوگ بہت غافل ہیں۔ اللہ کیلئے محبت کرنے محض اللہ کی خوشی کیلئے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کیلئے جانے کا رواج روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اغراض و خواہش نفس یا مادی فوائد کیلئے ملنا، جلنا، ہنسنا، بولنا، چلنا، پھرنا رہ گیا ہے۔

(۲) اس کا کھلا ہوا نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا خیال کرتا ہے تو دل اس کی طرف کھینچے لگتا ہے۔

مسلمانوں کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے ”تمسخر کریں“ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو اور نہ ایک دوسرے کا برنامہ رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برنامہ (رکھنا) گناہ ہے اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ (الحجرات، آیت: ۱۱)

اور ارشاد ہے:

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات، آیت: ۱۲)

اور ارشاد ہے:

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام (کی تہمت سے) جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ،
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا، فَقَدْ
احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾
(الاحزاب، آیت: ۵۸)

اور ارشاد ہے:

جو شخص کسی کو (ناحق) قتل کرے گا یعنی ایک جان بلا عوض جان کے قتل کی جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کا قتل کیا اور جو اسکی زندگی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾
(المائدة، آیت: ۳۲)

مسلمان بڑا قابل احترام ہے

۸۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم نحر کو لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگو! آج کونسا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ حرمت (احترام) کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کونسا شہر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا قابل احترام شہر ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کونسا مہینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اس دن اس شہر اور اس مہینہ ہی کی طرح قابل احترام ہیں بار بار آپ نے یہ فرمایا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا حضرت ابن عباس نے فرمایا خدا کی قسم امت کے نام یہ حضور ﷺ کی وصیت ہے۔ جو موجود ہے اس کو چاہئے کہ غائب کو وصیت پہنچا دے تم ہمارے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو۔ (بخاری)

کتاب اللہ ہمارے لئے اسوہ ہے

۸۹۔ حضرت یزید بن شریک سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے دیکھا۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا خدا کی قسم کتاب اللہ کے سوا ہمارے پاس اور کوئی کتاب نہیں جسکو ہم پڑھیں، اور ہاں جو اس صحیفہ (۱) میں ہے پھر اسکو کھولا تو اسمیں دیت میں دیئے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا اور بہت سارے زخموں کے تاوان کا ذکر تھا اور یہ تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، ذمہ لینے میں تمام مسلمان برابر ہیں، ان کا ایک ادنیٰ شخص بھی ذمہ لے سکتا ہے جس نے کسی مسلمان سے بد عہدی کی، اس پر خدا کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسکے کسی فرض و نفل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ (مسلم)

مومن، مومن کا معاون و مددگار ہے

۹۰۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا مومن، مومن کے لئے دیوار کی طرح ہے کہ اسکا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط و محکم کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

ایمان والے کو ہر مومن کی تکلیف کا احساس ہونا چاہئے

۹۱۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا: آپس میں محبت کرنے، ایک دوسرے پر باہم رحم کرنے اور ایک دوسرے پر لطف و مہربانی کرنے میں مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۱) اس حدیث سے اس باطل عقیدہ کی جڑکٹ جاتی ہے جو شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ حضرت علی کے پاس کوئی مخصوص صحیفہ تھا اور اللہ کے رسول نے ان کو خاص وصیت کی تھی۔

مسلمان بھائی کی مدد سے اللہ کی نصرت

۹۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی مدد و نصرت فرماتا رہتا ہے۔ جو کسی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک نہ ایک پریشانی سے اسکو بچالے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسکی پردہ پوشی فرمائے گا۔ (بخاری)

مسلمانوں کی تحقیر کرنے اور ان کا ساتھ چھوڑنے کی حرمت

۹۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو۔ دام دیکر قیمت نہ بڑھاؤ (۱)، نہ آپس میں بغض و عداوت رکھو نہ ایک دوسرے سے مقاطعہ کرو اور اپنا سودا دوسرے کے بیچتے کے وقت آگے نہ کرو۔ ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے اور نہ اسکو حقیر سمجھے پھر آپ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ پرہیزگاری (۲) اس جگہ ہے ایسا تین مرتبہ کیا آدمی کے لئے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے ہر مسلمان پر مسلمان کا خون اسکی آبرو اور اسکا مال حرام ہے۔ (مسلم)

مسلمانوں سے ناحق بدظنی کرنے کی حرمت

۹۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے کسی کی بات کان لگا کر مت سنو، کسی کے عیب کی جستجو مت

(۱) کوئی شخص سامان کی قیمت میں محض بیوقوف بنانے اور دھوکہ دینے کی خاطر اضافہ کر دے، اور خریدنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔

(۲) تقویٰ اور پرہیزگاری کا تعلق دل سے ہے بناوٹ اور تصنع سے نہیں ہے۔ (زادستر)

کر و ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش مت کرو (۱) آپس میں حسد نہ کرو۔ آپس میں غصہ نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرو ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی۔ (مسلم)

تین دن سے زائد مسلمان سے مقاطعہ کی حرمت

۹۵۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین رات سے زائد جدا رہے اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ (بخاری)

مسلمانوں کو ایذا دینے اور ان سے بدزبانی کرنے کی حرمت

۹۶۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ (مسلم)

کفریہ اعمال سے بچنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی حرمت

۹۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں فرمایا تمہارا بھلا ہو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ (مسلم)

مسلمان کو گالی دینا فسق ہے

۹۸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسکا قتل کرنا کفر ہے۔ (مسلم)

(۱) غلط کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ اچھا ہے۔

ایک دوسرے کے مال کو ناحق لینے کی حرمت

۹۹۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس نے کسی مسلمان کا حق قسم کھا کے چھینا اللہ تعالیٰ نے اسکے لئے جہنم میں داخلہ ضروری کر دیا اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ایک شخص نے پوچھا! اللہ کے نبی چاہے وہ تھوڑی ہی چیز ہو آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

اس قدر مسلمان قابل احترام ہے

۱۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے (دھار دار چیز) سے اشارہ کیا فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک یہ اس کو چھوڑ نہ دے چاہے وہ باپ یا ماں کی نسبت سے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

۱۰۱۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلا وجہ مسلمان کی عزت و آبرو پر زبان درازی کرنا بدترین ظلم ہے۔ (ابوداؤد)

غیبت کرنے پر سخت سزا

۱۰۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میری معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذرا جن کے پیتل کے ناخون تھے ان سے وہ اپنے سینوں اور چہروں کو نوج رہے تھے میں نے حضرت جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے (غیبت کرتے تھے) اور ان کی عزت و آبرو کو مجروح کر دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

منافقوں کے لئے وعید

۱۰۳۔ حضرت ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے

صرف زبان سے ایمان لانے والو اور دل سے یقین نہ کرنے والو! مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ انکی عزت کے پیچھے پڑو۔ جو انکی عزت کے پیچھے پڑے گا تو اس شخص کی عزت کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑے گا اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے پیچھے پڑے اسکو اسکے گھر میں رسوا کر دے گا۔ (ابوداؤد)

مسلمان کو منافق سے بچانے والے کے لئے اللہ کی رحمت

۱۰۴۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کو منافق سے بچلایا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تو اللہ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسکے گوشت (یعنی جسم) کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہوگا کہ اپنے اس فعل سے اس میں عیب لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر روک لے گا جب تک کہ اس نے جو بہتان لگایا ہے اسکا تادان دیکر چھٹکارا نہ حاصل کر لے۔ (ابوداؤد)

بعض مواقع پر مومن کی مدد و حمایت ضروری ہو جاتی ہے

۱۰۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی کسی مسلمان کو ایسی جگہ بے سہارا چھوڑ دے گا جہاں اسکی بے عزتی ہو رہی ہو اور اسکی حرمت و آبرو پر دھبہ لگایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ بے سہارا چھوڑ دے گا جہاں وہ اسکی مدد کا طلبگار ہوگا اور جو شخص بھی کسی مسلمان کی ایسی جگہ میں مدد کرے گا جہاں اسکی عزت پامال ہو رہی ہے اور اسکی آبرو کی پردہ دری کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسکی مدد ایسی جگہ فرمائے گا جہاں اسکی مدد کی اس بندے کو ضرورت ہوگی۔ (ابوداؤد)

مومن کی عظمت

۱۰۶۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے گھر کی طرف یا یہ فرمایا کہ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تمہاری کیا بڑائی ہے اور تمہاری حرمت کتنی بڑھی ہوئی ہے مومن اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ محترم ہے۔ (ترمذی)

محنت و مزدوری اور ہاتھ سے کمانے کی اہمیت و فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا
فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو
تاکہ نجات پاؤ۔

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾
(الجمعة، آیت: ۱۰)

اور ارشاد ہے:

اسکا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں
تجارت کے ذریعہ) اپنے پروردگار سے روزی
طلب کرو۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (البقرة، آیت: ۱۹۸)

اور ارشاد ہے:

حالانکہ بیع کو خدا نے حلال کیا اور سود کو حرام۔

﴿وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
(البقرة، آیت: ۲۷۵)

اور ارشاد ہے:

اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ
ہاں اگر اسکی رضامندی سے تجارت کا لین دین
ہو (اور اس سے مالی فائدہ ہو تو جائز ہے)

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾
(النساء، آیت: ۲۹)

اور ارشاد ہے:

اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ (پانی کو) پھاڑتی ہوئی چلی آتی ہیں، تاکہ تم اسکے فضل سے معاش تلاش کرو۔

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنَ فَضْلِهِ﴾ (الفاطر، آیت: ۱۲)

اور ارشاد ہے:

یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر سے نہ سوداگری عاقل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (النور، آیت: ۲۷)

اور ارشاد ہے:

مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة، آیت: ۲۶۷)

مانگنا اچھی چیز نہیں

۱۰۷۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی اپنی رسی لیکر پہاڑ پر آئے، اور لکڑی کا ایک بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دلائے، اس کو بیچے اللہ اس کی وجہ سے بقدر ضرورت دے دے، تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں کی خوشی پر موقوف ہے دیں نہ دیں۔ (بخاری)

۱۰۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو لکڑی کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دلائے، تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ دیں نہ دیں۔ (بخاری مسلم)

بڑے بڑے پیغمبر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے

۱۰۹۔ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کسی نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا کہ آدمی اپنے ہاتھ کی محنت کا کھائے بیشک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ (بخاری)

حضرت زکریا کی محنت و مزدوری

۱۱۰۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ (مسلم)

صدقہ و خیرات میں مالداروں کا حق نہیں ہے

۱۱۱۔ حضرت عبید اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ان سے بیان کیا کہ وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے صدقہ و خیرات مانگا، آپ ﷺ نے نظر ڈال کر اوپر سے نیچے تک دیکھا تو آپ ﷺ نے ان کو توانا و تندرست محسوس کیا، پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا، تم چاہو تو میں تم کو دیدوں، (مگر یہ سمجھ لو کہ) اور (تم جیسے) تندرست و توانا لوگوں کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ (ابوداؤد و نسائی)

یتیم کے مال کو تجارت کر کے بڑھانا چاہئے

۱۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو کسی یتیم کا ولی بنے اس کو چاہئے کہ اس یتیم کے مال کو تجارت کر کے بڑھاتا رہے، ایسا نہ کرے کہ اس کو بڑھائے نہیں اور صدقہ دیتے دیتے اسکا مال ختم ہو جائے۔ (ترمذی)

زمانہ حج میں تجارت کا جواز

۱۱۳۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عکاظ بمنہ اور ذوالحجاز (ان جگہوں پر لوگ میلہ کے طور پر بازار لگایا کرتے تھے) زمانہ جاہلیت کے بازار تھے، تو صحابہ کرام نے زمانہ حج میں تجارت کو گناہ سمجھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ”لیس علیکم جناح ان تبتغوا

فضلاً من ربکم" اس کا تم کو کوئی گناہ نہیں کہ (تم حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) رزق تلاش کرو، اپنے پروردگار سے۔
(بخاری)

تجارت کی برکت

۱۱۴۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے اور سعد بن الربیع کے درمیان مواخات کروائی، تو سعد بن الربیع نے کہا، کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنا آدھا مال تم کو دیتا ہوں، تم دیکھو میری دونوں بیویوں میں سے جس کے خواہشمند ہو اس سے میں تمہارے لئے دستبردار ہو جاؤں (طلاق دیدوں) جب عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لو، حضرت عبدالرحمن نے فرمایا، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں (بس مجھ کو یہ بتادو کہ) یہاں کوئی بازار ہے، جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو؟ سعد بن الربیع نے کہا، قبیقاع کا بازار ہے، دوسرے دن حضرت عبدالرحمن بازار گئے، اور پیپر اور گھی لائے، پھر اسی طرح برابر صبح جاتے رہے، تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا، کہ ایک دن آئے، اور ان کے کپڑوں پر سہاگ عطر کا اثر تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا (جی) ہاں، آپ نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے جواب دیا، انصار کی ایک خاتون سے، پھر آپ نے پوچھا: کیا دیا؟ (مہر) تو انہوں نے عرض کیا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، (یعنی ۳ درہم) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔
(بخاری)

مہاجرین کا تجارت اور انصار کا کھیتی باڑی کرنا

۱۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ تم لوگ کہتے ہو، کہ ابو ہریرہ، رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں بہت کثرت سے بیان کرتا ہے، کیا بات ہے کہ مہاجرین و انصار ابو ہریرہ کی طرح رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں نہیں بیان کرتے، تو وجہ اسکی یہ ہے کہ مہاجرین تجارتی کاروبار کے سلسلہ

سے بازاروں میں مشغول رہتے تھے، اور میں ہر چیز سے فارغ ہو کر خدمت رسالت ﷺ میں حاضر رہتا تھا، وہ غیر حاضر رہتے میں حاضر رہتا، وہ بھول جاتے میں یاد کر لیتا اور میرے انصار بھائیوں کو اپنی کھیتی باڑی سے فرصت نہ ملتی، اور میں فقراء صفہ میں سے ایک فقیر تھا، جب وہ بھول جاتے تو میں یاد رکھتا۔
(بخاری)

حضرت ابو بکرؓ کا تجارت میں مشقت اٹھانا

۱۱۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت سنبھالا تو فرمایا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میرے پیشہ کی آمدنی میرے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے لئے ناکافی نہیں تھی، اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوں، لہذا اب ابو بکر کے متعلقین اس (سرکاری) مال سے کھائیں گے، (مسلمانوں کے نفع کے خاطر) تجارت میں لگائیں گے۔ (۱)
(بخاری)

بیع صرف کا حکم

۱۱۷۔ حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم لوگ تجارت کرتے تھے، ہم نے آپ ﷺ سے بیع صرف کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، کہ اگر دست بدست (نقد) ہو تو کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار ہو تو درست نہیں۔ (۲)۔ (بخاری)

(۱) حضرت ابو بکرؓ کے تقویٰ و پرہیزگاری اور عزیمت پر عمل کی مثال نہیں مل سکتی اسی لئے آپ کو صدیقیت کا وہ بلند مقام ملا، جو آپ ہی کا حصہ تھا، آپ نے خلافت کے بعد جب مجبوراً بیت المال سے کچھ لینا شروع کیا، تو اسکے بعد مسلمانوں کے معاملات کی نگہداشت ان کی تجارت کے فروغ اور ان کی غذا کی فراہمی کے لئے کوشاں رہے، جو آپ پر بحیثیت خلیفہ واجب نہیں تھا۔ (خلفاء راشدین، مجمع بحار الانوار)
(۲) سونے چاندی اور ایک دوسرے کی آپس میں بیع کے بارے میں تفصیلی مسائل ہیں، جو فقہ کی کتابوں سے دیکھنا چاہئے۔

مقروض سے مطالبہ کرنے میں نرمی

اور خرید و فروخت میں سخاوت

۱۱۸۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جس کو اللہ نے مال سے سرفراز کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کیا گیا، (یعنی قبر میں یا حشر کے دن) اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا عمل کئے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ”ولا یکتُمون اللہ حدیثاً“ (اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے) وہ بندہ عرض کرے گا کہ تو نے مجھ کو مال عطا فرمایا تو میں لوگوں کے خرید و فروخت کے وقت نرمی اور سخاوت سے کام لیتا تھا، مالدار سے آسانی کا برتاؤ کرتا تھا، اور نادار کو مہلت دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھ سے زیادہ درگزر کا حق رکھتا ہوں، پھر فرمائے گا، میرے بندہ کو درگزر کرو، عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنا ہے۔ (مسلم)

بیچی جانے والی چیز کا عیب چھپانے کی سخت ممانعت اور وعید

۱۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گذرے آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا، تو آپ کی انگلیوں نے گیلاپن محسوس کیا، آپ نے اس غلہ فروش دوکاندار سے فرمایا کہ یہ تری اور گیلاپن کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ غلہ پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں، آپ نے فرمایا اس بھیکے ہوئے غلہ کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ رہنے دیا، تاکہ خریدنے والے لوگ اس کو دیکھ سکتے، جو آدمی دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (مسلم)

جھوٹ سے تجارت کی برکت کا اٹھنا

۱۲۰۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا

خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک الگ نہ ہوں (۱) اگر وہ سچ بولیں تو ان کی سوداگری میں برکت دی جائے گی، اور اگر جھوٹ بولیں (گے) تو ان کی سوداگری کی برکت ہٹا دی جائے گی (۲)۔
(بخاری و مسلم)

دھوکہ باز تاجر کا حشر خراب ہوگا

۱۲۱۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ تاجر لوگ سوائے ان کے جنہوں نے تقویٰ، نیکی اور سچائی کا رویہ اختیار کیا، قیامت میں فاجر اور بدکار اٹھائے جائیں گے۔ (ترمذی)

شجر کاری اور کاشت میں نفع ہی نفع

۱۲۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے، اور اس سے انسان فائدہ اٹھائیں یا پرند تو اسکے لئے صدقہ ہے۔
(بخاری و مسلم)

بٹائی پر زمین دینا

۱۲۳۔ حضرت عمرو بن دینار تابعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے طاؤس (تابعی) سے ایک بار کہا آپ بٹائی پر زمین اٹھانا چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ

(۱) خرید و فروخت کے معاملہ میں اگر بیچنے والا یا خریدنے والا یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ شرط کرے کہ ایک دن یا دو تین دن تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اس معاملہ کو ختم کر دوں تو جائز ہے، امام نسائی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اس طرح کئے بغیر بھی دونوں کو اس وقت تک معاملہ فتح کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جب تک وہ دونوں اسی جگہ رہیں، لیکن اگر کوئی ایک بھی اس جگہ سے ہٹ جائے اور علاحدہ ہو جائے تو یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔

(۲) ایک چیز ہے روپیہ کی زیادتی اور ایک چیز ہے روپیہ کی برکت، برکت یہ ہے کہ اس کا ان کو موقع ملے کہ روپیہ کام آئے نیک عمل کی توثیق ہو یہ نہیں ہوگا۔ (زادسفر)

نے اس سے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کاشتکاروں کو کاشت کے لئے زمین بھی دیتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی ان کی مدد کرتا ہوں، اور امت کے بڑے عالم یعنی عبد اللہ بن عباسؓ نے مجھ کو بتایا تھا، کہ اللہ کے رسول ﷺ نے زمین کو بھائی پر اٹھانے سے منع نہیں فرمایا البتہ یہ فرمایا تھا کہ اپنی زمین اپنے دوسرے بھائی کو کاشت کے لئے دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی مقررہ لگان وصول کرے۔

(بخاری)

پیداوار کے نصف حصہ پر معاملہ

۱۲۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے پیداوار (کاشت ہو یا پھل) کے نصف حصہ پر معاملہ کیا، آپ اپنی ازواج مطہرات کو سو سق (۱) عنایت فرماتے، اسی ۸۰ سق کھجور اور بیس ۲۰ سق جو، حضرت عمرؓ نے خیبر کے حصے کردئے اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا، کہ زمین و پانی والا حصہ لے لیں یا سابقہ حصہ ان کے لئے برقرار رکھا جائے، تو ان میں سے کسی نے زمین والا حصہ لیا اور کسی نے سق والا حصہ، حضرت عائشہؓ نے زمین والا حصہ اختیار کیا۔

(بخاری)

(۱) اہل مدینہ کے ناپ کے پیمانوں میں اہم پیمانے مند، صاع، اور سق تھے، مند دو چلو کے بقدر غلہ یا پانی کو کہتے تھے یہ دو چلو متوسط آدمی کے ہاتھوں کے بقدر پائے گئے ہیں، چار مند کا ایک صاع اور ساٹھ ۶۰ صاع کا ایک سق شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مند مساوی ہوگا، ۵۴۳ گرام وزن کے گیہوں یا ۸۱۶ گرام پانی اور ایک صاع مہساوی ہوگا، ۲۱۷۶ گرام وزن کے گیہوں یا ۳۲۶۴ گرام پانی کے، (جزیرۃ العرب)

زُہد و تقاوت اور اللہ پر یقین

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا
رزق خدا کے ذمہ ہے۔

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا﴾ (ہود، آیت: ۶)

اور ارشاد ہے:

(اور ہاں تم جو کچھ خرچ کرو گے تو ان حاجت
مندوں کے لئے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے
ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت
نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں
تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو
غنی خیال کرتا ہے اور تم قیافہ سے ان کو صاف
پہچان لو (کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب)
لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ،
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ
الْحَافِيَ﴾

(البقرہ، آیت: ۲۷۳)

اور ارشاد ہے:

اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں
اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں۔ بلکہ اعتدال
کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا، لَمْ يُسْرِفُوا، وَلَمْ
يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾
(الفرقان، آیت: ۶۷)

اور ارشاد ہے:

میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں خدا ہی رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے۔

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ﴾ (الذاریات: ۵۷-۵۸)

مال میں برکت کا طریقہ

۱۲۵۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ مال سرسبز و شاداب ہے، جو اس کو بے پرواہی کے ساتھ لے گا، تو اس میں برکت ہوگی، اور جو نفس کی طمع کے ساتھ لے گا، تو برکت نہ ہوگی، اور یہ مثال ایسی ہے کہ آدمی کھاتا ہے، اور سیر نہیں ہوتا، اور اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ (بخاری و مسلم)

دولت کی کثرت کا نقصان

۱۲۶۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مال میں بڑی کشش اور مٹھاس ہے، موسم بہار میں جو سبزہ اگتا ہے، (وہ ایسا لذیذ ہوتا ہے کہ) اس کو جانور اتنا کھا جاتا ہے، کہ پیٹ پھول آتا ہے، اور وہ یا تو مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، سوائے اس جانور کے جو کھاتا ہے پھر جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ کھاتا ہے جگالی کرتا ہے، اور پاخانہ پیشاب کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ کھاتا ہے، (اس سے اس کو نقصان نہیں پہنچتا) یہ مال بھی بڑا میٹھا ہے، جو اس کو جائز طریقہ سے حاصل کرتا ہے، اور پھر صحیح محل میں خرچ کرتا ہے، تو اسکے لئے کیا خوب رزق ہے اور جو اس کو غلط طریقہ سے حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے، جو کھاتا جاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ (بخاری)

دنیا کا جال

۱۲۷۔ حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے لئے فقر کو نہیں ڈرتا لیکن مجھے خوف ہے کہ تمہارے لئے بھی دنیا اسی طرح نہ پھیلا دی جائے جیسے تم سے اگلوں کے لئے پھیلائی گئی تھی، تو تم اس سے محبت کرنے لگو جس طرح کہ وہ محبت کرنے لگے تھے، اور جیسے ان کو (آخرت سے) غافل کیا تم کو بھی کہیں غافل نہ کر دے۔
(بخاری)

دنیا سے محبت کرنے والے کا حال

۱۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دینار و درہم کا بندہ (یعنی روپے پیسے کا چاہنے والا) تباہ و برباد ہوا، اگر اس کو دیا جائے تو خوش اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔
(بخاری)

انسان کی تمنائیں ختم ہونے والی نہیں

۱۲۹۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کو دو وادی مل جائیں، اسکے منہ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، (یعنی اسکی تمنائیں جب تک موت نہ آجائے ختم نہیں ہو سکتی ہیں) اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

بے مانگے حاصل ہونے والے مال کے لینے میں کوئی حرج نہیں

۱۳۰۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ عنایت فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے اے اللہ کے رسول ﷺ مجھ سے زیادہ جو محتاج ہو اس کو عنایت فرمادیں، آپ ارشاد فرماتے کہ اس کو

لے لو اپنی ملکیت بنا لویا اس کو صدقہ کر دو، اور جو مال تم کو بلا مانگے اور بلا لالچ کے مل جائے اس کو لے لو، اور جو اس طرح نہ حاصل ہو اسکے پیچھے اپنے کو نہ تھکاؤ۔
(مسلم)

سامان ضرورت بھر ہو

۱۳۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ خوش نصیب وہ ہے جو اسلام لایا، اور ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ قانع ہے۔
(مسلم)

تلاش رزق میں پرہیزگاری

۱۳۲۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! خدا سے ڈرو، اور تلاش رزق کے سلسلہ میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، پس کوئی تنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، تو اگر روزی میں تاخیر ہو جائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اور تلاش رزق کے سلسلہ میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور جو حلال و جائز ہے اس کو اختیار کرو، اور جو حرام و ناجائز ہے اس کو ترک کرو۔ (ابن ماجہ)

غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو

۱۳۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ دولت و استغناء مال کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ مال داری دل کی دولت ہے۔ (بخاری و مسلم)

دنیا میں مسافروں کی سی زندگی گزارو

۱۳۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر راہ گیر۔
(بخاری)

خدا اور مخلوق کی محبوبیت کا نسخہ

۱۳۵۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع نہ کرو (بے فکر اور غنی ہو جاؤ) لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ (ابن ماجہ)

اپنے مال میں انسان کا اصلی حصہ

۱۳۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، اس کا مال تو تین ہی چیزیں ہیں، جو اس نے کھایا فنا کیا، جو پہنا پرانا کیا، یا صدقہ کیا، تو اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چلا جائے گا، اور لوگوں کے لئے چھوڑ جائے گا۔ (مسلم)

قیامت میں چار سوال

۱۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کسی بندہ کے قدم نہ ہٹیں گے جب تک چار باتوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے گا۔

- (۱) اسکی عمر کے متعلق کس میں فنا کی۔
- (۲) علم کے متعلق کہ اس سے کیا کام کیا۔
- (۳) مال کے متعلق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
- (۴) اور جسم کے متعلق کہ کس میں پرانا کیا۔ (ترمذی)

خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾
(سبا، آیت: ۲۹)

اور جو تم خرچ کرو گے وہ اس کا (تمہیں) عوض
دے گا۔

اور ارشاد ہے:

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ، وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ، وَأَنْتُمْ
لَا تَظْلَمُونَ﴾ (البقرة، آیت: ۲۷۲)

اور (اے مومنو) تم جو مال بھلی راہ میں خرچ
کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم جو
خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لئے کرو گے
اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا
جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ارشاد ہے:

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ﴾ (البقرة، آیت: ۲۷۳)

اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہ ہو کہ خدا
اس کو جانتا ہے۔

لوگوں کی غربت کا نبی کریم ﷺ پر خاص اثر

۱۳۸۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ دن کے ابتدائی حصہ
میں حضور ﷺ کی خدمت میں تھے کہ کچھ لوگ دھاری دار چادریں بیچ سے کاٹ کر گلہ میں ڈالے

ہوئے یا عبا پہنے ہوئے تلوار لٹکائے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے اکثر قبیلہ مضر کے لوگ تھے، ان پر فقر و فاقہ کا اثر دیکھ کر حضور ﷺ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، آپ اندر تعریف لے گئے، پھر باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم فرمایا، اذان و اقامت ہوئی اور نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد آپ نے تقریر فرمائی اور فرمایا لوگو تم اس خدا سے ڈرو، جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، آیت کے آخری حصہ ”ان اللہ کان علیکم رقیباً“ بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تک (پڑھا) پھر سورہ حشر کی آیت ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد“ (اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟) پڑھی،

اسکے بعد لوگوں نے روپیہ پیسہ کپڑا خیرات کیا، کوئی ایک صاع گیہوں لایا، کوئی ایک صاع کھجور ہی لایا، یہاں تک حضور ﷺ نے فرمایا، لائے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، انصار میں سے ایک شخص بھری ہوئی بوری لے کر آئے، جس کا اٹھانا اور سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، بلکہ ہاتھ جواب دے گئے، پھر تودینے والوں کا تانتا بندھ گیا، یہاں تک کہ میں نے غلٹہ اور کپڑے کے دو ڈھیر دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کا چہرہ مبارک دمک رہا ہے، روئے انور پر خوشی و بشارت کھل رہی ہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کا بھی اجر اس شخص کو ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس کو اس کا بھی وبال ہوگا، دوسرے جو لوگ اس کو اپنائیں گے، ان کا بھی وبال اس کو ہوگا۔ ان کے وبال میں کوئی کمی کئے بغیر۔

(مسلم)

مالداروں کے لئے وعید

۱۳۹۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا،

آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں تشریف فرماتے، آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہی خسارہ میں ہیں، میں آیا اور آپ ﷺ کے پاس بیٹھ گیا، پھر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خوب خرچ کیا، سامنے والوں پر، پیچھے اور دائیں بائیں رہنے والوں پر، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ (مسلم)

دو طرح کے لوگوں پر رشک کرنا چاہئے

۱۴۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ رشک تو دو ہی قسم کے آدمیوں پر کرنا درست ہے، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی خوب توفیق دی ہو اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ اسکے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہو، اور لوگوں کو سکھاتا ہو۔ (مسلم)

راہ حق میں خرچ ہونے والا مال اس کا مال ہے

۱۴۱۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اسکے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اللہ کے نبی! ہم میں سے ہر شخص کو اسی کا مال زیادہ محبوب ہے، آپ نے فرمایا، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور اسکے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ (بخاری)

۱۴۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک کھجور کے برابر بھی پاکیزہ کمائی سے صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اس کو داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر (صدقہ کرنے والے کے لئے) اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو (پال کر) بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ (بڑا ہو جاتا ہے) پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ (بخاری مسلم)

بے ضرورت مال کو خرچ کرنا

۱۳۳۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بنی آدم تم اپنا بچا کھچا خرچ کر دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر اس کو روک رکھو، تو تمہارے حق میں بُرا ہے، ضرورت بھر روک لو تو قابل ملامت نہیں، خرچ کرنے میں جو قریبی لوگ ہوں ان سے شروع کرو، اوپر کا ہاتھ (یعنی دینے والا) نیچے کے ہاتھ (یعنی لینے والا) سے اچھا ہے۔ (مسلم)

جو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی ہے

۱۳۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ ایک بکری ذبح ہوئی رسول اللہ ﷺ نے پوچھا اس میں سے کیا بچا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اس کا صرف دست باقی ہے، آپ نے فرمایا، دست کے علاوہ سب باقی ہے۔ (ترمذی)

گننے کی ممانعت، خرچ کی ہدایت

۱۳۵۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بخل نہ کرو، کہ تمہارے ساتھ بھی بخل کیا جائے، ایک روایت میں ہے کہ خرچ کرو، دو، دلاؤ، گن گن نہ کرو، کہ تمہارے لئے بھی گنا جائے، حساب نہ لگاؤ کہ تم کو بھی حساب سے دیا جائے۔ (بخاری مسلم)

صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا

۱۳۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی عزت بڑھاتا ہی رہتا ہے، اور جو بھی اللہ کے لئے تواضع و خاکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے ہیں۔ (مسلم)

افضل ترین صدقہ

۱۴۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کون سا صدقہ زیادہ موجب اجر ہے، آپ نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو، کہ تم تندرست ہو، مال کا شوق و لالچ ہو، فقر کا کھٹکا لگا ہو، مالدار رہنے کی امید بندھی ہو، اور خرچ میں ٹال مٹول نہ کرو، کہ جب موت کا وقت آجائے، تو وصیت کرنے لگو کہ فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ (بخاری مسلم)

دنیا کی بے وقعتی

۱۴۸۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا پھر جلدی سے اٹھے، اور لوگوں کی گردن پھاندتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے تشریف لے گئے، آپ کی اس جلدی سے لوگ گھبرا گئے، کچھ دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو محسوس فرمایا کہ آپ کی جلدی سے لوگ حیرت زدہ ہیں، تب آپ نے فرمایا، کہ مجھے یاد پڑا کہ گھر میں چاندی یا سونے کی ایک ڈلی رہ گئی ہے، یہ مجھے پسند نہ آیا، کہ وہ ذہن میں الجھن پیدا کرتی رہے، لہذا میں نے جا کر اس کو تقسیم کر دینے کی ہدایت کر دی۔ (بخاری)

انسان کے عمل میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے

۱۴۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں کچھ ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ صدقہ لے کر نکلا اور دھوکہ میں ایک چور کو دے دیا، صبح کو لوگوں میں ایک چرچا شروع ہوا کہ چور کو صدقہ دے دیا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ قابل حمد و ستائش تو تیری ہی ذات ہے، میں کچھ ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ صدقہ کا مال لے

کر نکلا، اور ایک زانیہ کو دے دیا، صبح کو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ (فلاں نے) زانیہ کو صدقہ دیا، اس شخص کو غلطی کا علم ہوا تو کہا، خداوند ساری تعریف تجھی کو زیبا ہے، میں نے تو زانیہ کو صدقہ دے دیا، میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا، چنانچہ صدقہ کا مال لے کر نکلا، اور ایک مالدار کو دے دیا، صبح کو پھر اس کا چرچہ ہوا کہ ایک مالدار کو صدقہ دے دیا، اس نے کہا میرے اللہ سب تعریفیں تجھی کو زیبا ہیں، ایک مرتبہ تو چور کو دے دیا، پھر دوبارہ ایک زانیہ کو دے دیا، اور تیسری بار ایک مالدار کو دے دیا، پھر آیا تو اس سے کہا گیا، کہ چور کو صدقہ دینا بر بنائے مصلحت خداوندی تھا، شاید اب وہ چوری سے بچے، زانیہ کو بھی دینا شاید اس کو زنا سے باز رکھنے کا سبب بن جائے، رہا مالدار تو ہو سکتا ہے، اس کو تمہارے اس عمل سے عبرت ہو، اور خدا کے دیئے ہوئے مال سے وہ بھی خرچ کرے۔

(بخاری)

ایثار اور ایک دوسرے کا تعاون و دل داری

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر، آیت: ۹)

اور ارشاد ہے

اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود ضرورت ہی ہے۔

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، لَنُرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (الذھر، آیت: ۸-۹)

اور باوجودیکہ ان کو خود کھانے کی خواہش (اور ضرورت) ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم تم کو خالص خدا کے لئے کھلاتے ہیں۔ نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔

اور ارشاد ہے

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الٰذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِتْيَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الِاعْلَىٰ﴾ (اللیل، آیت: ۱۷-۲۰)

اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ (اس سے) بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور (اسلئے) نہیں (دینا کہ) اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتار تا ہے بلکہ خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے۔

اور ارشاد ہے

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (آل عمران، آیت: ۹۲)

مومنو! جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں (راہ خدا میں) صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

ضیافت کی اعلیٰ مثال

۱۵۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور (خدمت اقدس میں) عرض کیا، میں فقر و فاقہ کا مہلا ہوں، آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس بھیجا کہ کچھ ہو تو لاؤ، انہوں نے کہلا بھیجا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغام حق لیکر بھیجا ہے، پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے بعد آپ نے دوسری بیوی کے ہاں بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، آپ نے فرمایا، آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا، حضرات انصار میں سے ایک صاحب نے فرمایا، اللہ کے نبی! میں، چنانچہ (یہ کہہ کر آپ) اس شخص کو لیکر اپنے خیمہ کی طرف گئے، اور اپنی اہلیہ سے کہا، حضور ﷺ کے مہمان کی ضیافت کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، صرف بچوں کا کھانا ہے، انصاری نے اہلیہ سے کہا، بچوں کو کسی طرح بہلا دو، اور جب وہ رات کا کھانا مانگیں، تو کسی طرح بہلا پھسلا کر سٹلا دو، اور جب ہمارا مہمان کھانے کیلئے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا اور ہم مہمان پر ایسا ظاہر کریں گے کہ گویا ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، چنانچہ یہ لوگ (کھانے کیلئے) بیٹھے، اور مہمان نے کھانا کھلایا، اور ان دونوں نے بھوکے رہ کر رات گزار دی، جب صبح کو انصاری حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کہ آج کی رات، اپنے مہمان کے ساتھ تم دونوں کے سلوک سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ ﷺ سائل کو واپس نہیں کرتے تھے

۱۵۱۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت بُنی ہوئی چادر لیکر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کو پہنانے کے لئے یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بُنی ہے، حضور ﷺ نے وہ چادر قبول فرمائی، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی، پھر وہی چادر زیب تن فرما کر ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے، ایک شخص نے کہا یہ چادر آپ ہمیں عنایت فرمادیں، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، آپ نے فرمایا اچھا، پھر آپ مجلس میں بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد واپس تشریف لے گئے، اور چادر تہہ کر کے، اس شخص کو بھیج دی، لوگوں نے اس شخص سے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کو زیب تن فرمایا، اور اس وقت آپ اس کے حاجت مند تھے، تم نے آپ سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ حضور ﷺ کسی سائل کو واپس نہیں فرماتے، اس شخص نے کہا، میں نے یہ چادر پہننے کے لئے نہیں مانگی بلکہ اسلئے مانگی کہ مرنے کے بعد یہی میرا کفن ہو، حضرت سہل فرماتے ہیں یہی چادر اس کا کفن بنی (بخاری)

زائد چیز دینے کا حکم

۱۵۲۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، کہ اسی اثناء میں، ایک شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا، اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، حضور ﷺ نے فرمایا جسکے پاس کوئی سواری فاضل ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زاد راہ ہو، وہ اس کو دے دے جس کے پاس زاد راہ نہ ہو، پھر آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر کیا، فرمایا، حتیٰ کہ ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ ضرورت سے زائد چیز میں ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں۔ (مسلم)

آپسی محبت کی مثال

۱۵۳۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، کہ اشعریوں کے اخراجات جنگ جب کم ہو جاتے تھے، اور شہر میں رہنے والے ان کے اہل و عیال کا کھانا پینا بھی کم ہوتا، تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا، اس کو ایک کپڑے میں جمع کرتے، اور پھر ایک برتن سے برابر برابر آپس میں تقسیم کر لیتے، وہ ہم میں سے ہیں، اور ہم ان میں سے (بخاری مسلم)

کھانے کی برکت

۱۵۴۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ حضور ﷺ نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے، اور دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

دوسروں کے ساتھ ہمدردی و بہی خواہی مومن کی شان

قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے انہوں نے اپنی امت سے کہا:

﴿وَأَنْصَحْ لَكُمْ﴾ (الاعراف، آیت: ۶۲) (اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں)

ہو د علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔

﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (الاعراف،: ۶۸) (اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات،: ۱۰) (مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں)

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے۔

﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورہ الحج، آیت: ۷۷)

اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

خیر خواہی کی اہمیت

۱۵۵۔ حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دین

خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے۔ آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا، ہم نے سوال کیا، اللہ کے نبی! کس

کے لئے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کی کتاب کے لئے اور اس کے رسول، مسلمان پیشواؤں اور ان

(مسلم)

کے عوام کے لئے۔

خیر خواہی ہر مسلمان کا حق

۱۵۶۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اور دل میں ہر مسلمان کے لئے جذبہ خیر رکھنے کی حضور ﷺ سے بیعت کی۔ (بخاری و مسلم)

ہر مسلمان کو جذبہ خیر خواہی رکھنا چاہئے

۱۵۷۔ حضرت زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ میں نے جریر بن عبد اللہ کو کہتے سنا کہ میں رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! میں اسلام کی آپ سے بیعت کرتا ہوں آپ نے مجھ پر یہ شرط لگائی کہ اس (اسلام) کے ساتھ ہر مسلمان کے لئے جذبہ خیر خواہی رکھنے کی بھی بیعت کریں۔ چنانچہ میں نے اس پر بیعت کی اور اس مسجد کے خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ (بخاری)

جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرے

۱۵۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۵۵۱
۱۵۳۲۰
(بخاری و مسلم)

آپس میں مسلمانوں کے چھ نمایاں حق

۱۵۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں جب اس سے ملو تو سلام کرو جب وہ دعوت دے تو قبول کرو جب تم سے نصیحت کی درخواست کرے تو اس کو نصیحت کرو اور جب وہ چھینکے اور الحمد للہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جاؤ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ (مسلم)

جو جیسا کرے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے

۱۶۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائیں گے اور جو شخص کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریگا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا و آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ (مسلم)

ظالم کی مدد ظلم سے روکنا ہے

۱۶۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں جب کہ وہ مظلوم ہو اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کو باز رکھو۔ ظلم سے روک دو بیشک یہ مدد ہے۔ (ظالم کی) (بخاری)

برائی سے باز رہنا بھی صدقہ ہے

۱۶۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے راوی نے (رسول اللہ ﷺ سے) کہا کیا خیال ہے اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے ہاتھ (کی محنت) سے کھائے۔ خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے راوی نے کہا کیا خیال ہے اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی ضرورت مند کی مدد کرے کہا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو آپ ﷺ نے فرمایا۔ وہ (خود) برائی سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

ضرورت مند کی سفارش کرنے پر اجر

۱۶۳۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تھا تو آپ ﷺ اپنے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے سفارش کرو، اور اجر حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ کروادیتا ہے۔ (بخاری مسلم)

اچھے کام اور برے کام کو رائج کرنے والوں کا ثواب اور عقاب

۱۶۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو ہدایت کی طرف بلائے گا تو اس کو ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی اور جو گناہ کی دعوت دے گا اس کو ان سب کا گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ (مسلم)

مومن، مومن کا آئینہ ہے

۱۶۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مومن، مومن کا آئینہ ہے۔ مومن، مومن کا بھائی ہے۔ وہ اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ (ابوداؤد)

۱۶۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ تم میں کاہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ اگر اس میں کوئی گندگی دیکھے تو اس کو دور کرے۔ (ترمذی)

عزت رکھنا بڑا ثواب ہے

۱۶۷۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت و آبرو کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ (ترمذی)

نیک نیتی سے ہر کام صدقہ ہے

۱۶۸۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے راہی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ کمزور نگاہ والے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ راستہ سے پتھر، کانٹا، ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اپنے گھڑے کا پانی اپنے بھائی کے گھڑے میں ڈال دویہ بھی صدقہ ہے۔ (ترمذی)

مرنے کے بعد یہ تین چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں

۱۶۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اسکے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے۔ صدقہ جاریہ، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔ (مسلم)

رہنمائی کرنے پر بڑا ثواب ہے

۱۷۰۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو بھلی راہ دکھائے گا۔ اس کو اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ (مسلم)

باہم صلح اور میل جول کرانے کی فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں۔
ہاں (اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے) جو
خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو
کہے۔

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ، إِلَّا مَن
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ، أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء، آیت: ۱۱۳)

اور ارشاد ہے

تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَاصْلِحُوا بَيْنَ
أَخْوَانِكُمْ﴾ (الحجرات، آیت: ۱۰)

اور ارشاد ہے

اور صلح خوب (چیز) ہے۔

﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (الانفال، ۱)

اور ارشاد ہے

اور آپس میں صلح رکھو۔

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء، آیت: ۱۲۸)

رسول اللہ ﷺ کی جدوجہد صلح کے سلسلہ میں

۱۷۱۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو اطلاع ملی
کہ بنو عمرو بن عوف کا آپس میں کچھ اختلاف ہے تو آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ان میں صلح کرانے

کیلئے تشریف لے گئے معاملہ طے ہونے میں دیر لگی اور نماز کا وقت آگیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو بکر حضور ﷺ معاملہ طے کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں اور نماز کا وقت قریب آگیا ہے کیا آپ امامت فرما سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

۱۷۲۔ حضرت سہل بن سعد ہی سے روایت ہے کہ قبائک لوگوں میں باہم لڑائی ہوئی (بات اتنی بڑھی کہ) پتھر بازی شروع ہو گئی۔ حضور ﷺ کو اطلاع کی گئی آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو ہم ان میں صلح کرا دیں۔ (بخاری)

نرمی و سہولت پر تاکید

۱۷۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے دو لڑنے والوں کی آواز سنی دونوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں ان میں کا ایک دوسرے سے کسی مطالبہ میں کمی کر رہا تھا اور نرمی کی درخواست کر رہا تھا اور وہ قسم کھا کر انکار کر رہا تھا کہ نہیں کروں گا۔ حضور ﷺ نکل کر ان دونوں کے پاس آئے اور فرمایا۔ نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں یہ جو چاہے میں اس کے لئے راضی ہوں۔ (بخاری و مسلم)

انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے

۱۷۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہر روز سورج طلوع ہونے کے بعد انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ وہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے سواری پر سوار ہونے میں آدمی کی مدد کرا دیتا ہے یا اس کا سامان اٹھا کر اسے دے دیتا ہے صدقہ ہے بھلی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لئے اٹھاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

صلح کی خصوصیت

۱۷۵۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابو معیط رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹا نہیں وہ نیک کام کرتا ہے اور بھلی بات کہتا ہے۔
(بخاری و مسلم)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مصالحانہ کردار

اور ان کے بارے میں پیشین گوئی

۱۷۶۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ منبر پر تشریف فرما تھے، اور پہلو میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرادے۔
(بخاری)

آپس کا بگاڑ دین کو برباد کر دیتا ہے

۱۷۷۔ حضرت ابو درداع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ کیا میں تم کو روزہ، نماز، صدقہ سے افضل کام نہ بتا دوں حضرات صحابہ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے نبی ضرور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ”باہم صلح کراتا“ اور آپس کا بگاڑ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ (ابوداؤد)

چغلی خور کے لئے وعید

۱۷۸۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، چغلی خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ چپکے سے لوگوں کی بات سن کر چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
(بخاری و مسلم)

پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے اور چغلی خوردگی کرنے کا عذاب

۱۷۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں۔ وہ بڑی (بات) ہیں۔ ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ (بخاری مسلم)

والدین کے ساتھ حسن سلوک

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی (کرتے رہو) اگر ان میں ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب سے کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کی ہے تو بھی (ان کے حال) پر رحم فرما۔

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾

(الاسراء، آیت: ۲۳-۲۴)

اور ارشاد ہے۔

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اسے دودھ پلاتی ہے اور دو برس میں دودھ چھڑانا ہوتا ہے (اپنے) اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہو اور اپنے ماں باپ کا بھی۔

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهُنَّ عَلَيَّ وَهْنٌ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾

(لقمان، آیت: ۱۴)

اور ارشاد ہے

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ
بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف
سے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے جتا۔

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾
(الاحقاف، آیت: ۱۵)

افضل اعمال

۱۸۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے
پوچھا کہ اے اللہ کے نبی! اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز کا اس
کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ
ﷺ نے فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، میں نے عرض کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون
سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ (بخاری و مسلم)

ماں کا حق سب سے زیادہ

۱۸۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کے پاس آیا
پھر اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے عرض کیا۔ پھر کون آپ نے فرمایا۔ تمہاری ماں اس نے
پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر اس نے پوچھا اسکے بعد کون؟ آپ ﷺ
نے فرمایا۔ تمہارے باپ۔ (بخاری و مسلم)

والدین کے حقوق

۱۸۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور ﷺ
کے پاس آیا اور عرض کیا آپ سے ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا

طالب ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے اس شخص نے جواب دیا۔ ہاں۔ بلکہ دونوں باحیات ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو اس شخص نے عرض کیا ہاں۔ میں اجر کا طالب ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (بخاری مسلم)

والدین کی اطاعت جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ

۱۸۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ذلیل ہو ذلیل ہو ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا ایک کو یا دونوں کو اور پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ (مسلم)

والد کا حق

۱۸۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کوئی لڑکا اپنے والد کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا الا یہ کہ باپ غلام ہو اور اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ (مسلم)

والدین کی اطاعت

۱۸۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی۔ اور وہ مجھے محبوب تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند فرماتے تھے چنانچہ مجھ سے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو میں نے طلاق دینے سے انکار کیا میرے انکار پر عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تم اس کو طلاق دے دو۔ (ابوداؤد ترمذی)

والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعا و استغفار

۱۸۶۔ حضرت مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور ﷺ

کے پاس تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسی نیکی ہے جس کو میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی (ان کے حق میں) کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ان کے لئے دعائے رحمت کرو۔ ان کے لئے استغفار کرو۔ ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرو اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو جن کا رشتہ والدین کے سبب ہی سے ہو اور ان کے دوستوں کا اکرام کرو۔ (ابوداؤد)

رضاعی ماں باپ کی عزت و احترام

۱۸۷۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ بھرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضور ﷺ سے قریب ہو گئی آپ نے اس عورت کے لئے اپنی چادر مبارک بچھادی اور وہ اس پر بیٹھ گئی میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کی رضاعی ماں ہیں۔ (ابوداؤد)

۱۸۸۔ حضرت عمر بن السائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو معلوم ہوا ایک دن حضور ﷺ تشریف فرما تھے آپ کے رضاعی باپ آئے آپ نے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لئے بچھادیا اور وہ اسی پر بیٹھ گئے پھر آپ کی رضاعی ماں آگئیں آپ نے کپڑے کا دوسرا حصہ ان کے لئے بچھادیا وہ اس پر بیٹھ گئیں اس کے بعد آپ کے رضاعی بھائی تشریف لائے آپ ان کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھالیا۔ (ابوداؤد)

والدین کے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک

۱۸۹۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ جب مکہ تشریف لے جاتے تو ان کے ساتھ ایک گدھا ہوتا تھا۔ جب سواری پر بیٹھے بیٹھے آتا جاتے (یعنی اونٹ پر) تو تفریح کے خیال سے گدھے پر سوار ہو جاتے آپ کے پاس عمامہ تھا جس کو باندھا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ گدھے پر سوار تھے کہ اسی اثناء میں ان کے پاس سے ایک اعرابی گذرا اس سے حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا تم فلاں شخص کے بیٹے فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے گدھا اس کے حوالہ کر دیا اور فرمایا تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ پگڑی بھی دے دی اور فرمایا اس کو باندھ لو۔ بعض ساتھیوں نے حضرت عبداللہ سے کہا اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے اس اعرابی کو وہ گدھا دے دیا جس پر تفریح کرتے تھے اور وہ پگڑی بھی دے دی جو خود باندھا کرتے تھے۔ (یہ سن کر) حضرت عبداللہ نے فرمایا۔ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے محبین کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ (مسلم)

والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک

۱۹۰۔ حضرت مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور ﷺ

کے پاس تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسی بھی نیکی ہے جس کو میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی (ان کے حق میں) کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعائے رحمت کرو اور استغفار کرو ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرو اور ان رشتوں کو باقی رکھو۔ جو انھیں کے سبب سے ہیں اور ان کے دوستوں کا اکرام کرو۔ (ابوداؤد)

حضرت خدیجہ کی فضیلت

۱۹۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کی ازواج میں جتنا میں حضرت خدیجہ پر رشک کرتی تھی اتنا کسی پر نہیں میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن حضور ﷺ اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور بسا اوقات آپؐ بکری ذبح فرماتے پھر اس کے کئی حصے کرتے اور ان حصوں کو حضرت خدیجہؓ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے کبھی کبھی میں کہتی جیسے دنیا میں خدیجہؓ کے سوا کوئی اور عورت تھی ہی نہیں میری بات سن کر آپؐ فرماتے۔ خدیجہ کی بابت کیا کہنا ان سے مجھے اولاد ملی۔ (بخاری و مسلم)

۱۹۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہالہ بنت خویلد نے حضور ﷺ سے اندر آنے کی اجازت چاہی ان کی آواز سے حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی اور آپؐ کو ایک کیف محسوس ہوا فرمایا۔ اوہو، ہالہ بنت خویلد۔۔۔ (مسلم)

حضرات انصار کی فضیلت

۱۹۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن جریر بن عبد اللہ بجاہ کے ساتھ سفر میں نکلا وہ میری خدمت کرتے تھے میں نے کہا یہ نہ کیجئے انھوں نے جواب دیا کہ میں نے انصار کو دیکھا کہ حضور ﷺ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں میں نے قسم کھالی تھی کہ انصار میں سے جس کے ساتھ بھی رہوں گا اس کی خدمت کروں گا۔ (بخاری و مسلم)

صلہ رحمی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ﴾ (النساء، آیت: ۱)

اے لوگو! ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور پیدا کیا اس سے جوڑا اس کا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے مرد عورت بہت سے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور لحاظ کرو رشتہ داریوں کا۔

اور ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ (الزمر، آیت: ۲۱)

اور وہ لوگ اسی چیز کو ملاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملایا جائے۔

صلہ رحمی اور قطع رحمی

۱۹۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب اس سے فارغ ہوا تو رشتہ نے عرض کیا۔ کیا قطع رحمی سے پناہ مانگنے کی یہ جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو راضی ہے کہ تجھے جو جوڑے اسے میں جوڑوں جو تجھے کاٹے اسے میں کاٹوں رشتہ نے کہا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بس یہ تیرے لئے ہے۔ پھر رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو۔

کیا یہ ممکن ہے جب تم کو حکومت اور موقع ملے
تو تم زمین پر فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو۔ وہی
لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اندھا
بہرا کیا۔ (بخاری و مسلم)

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ، وَتَقَطُّوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَاصْمَهُمْ، وَأَعْمَى
أَبْصَارَهُمْ﴾ (القتال، آیت: ۲۲-۲۳)

جورشتہ کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا

۱۹۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ رشتہ عرش
سے متعلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو
کاٹے گا۔ (بخاری و مسلم)

قطع رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے

۱۹۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے
عرض کیا۔ میرے قرابت دار ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان
کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں بردباری کرتا ہوں وہ میرے ساتھ
سختی کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جیسا تم کہہ رہے ہو اگر سچ ہے تو تم ان کے منہ میں خاک ڈالتے
ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد برابر تمہارے ساتھ رہے گی جب تک تم اس پر قائم رہو گے۔ (بخاری و مسلم)

بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں

۱۹۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے
ساتھ قطع رحمی کی جائے اور وہ صلہ رحمی کرے۔ (بخاری)

رشتہ جوڑنے کی فضیلت

۱۹۸۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے دور رکھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رشتہ جوڑو۔
(بخاری و مسلم)

رسول اللہ ﷺ کی تعلیم

۱۹۹۔ حضرت عمرو بن عبثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس مکہ آیا یعنی نبوت کے شروع میں، میں نے ان سے کہا۔ آپ (ﷺ) کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر ہوں میں نے کہا کہ پیغمبر کیا ہے؟ فرمایا جھکو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کیا چیز دے کر بھیجا ہے فرمایا۔ رشتہ جوڑنے کے لئے اور بتوں کو توڑنے کے لئے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔
(مسلم)

نانہال والوں کی مدد

۲۰۰۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بغیر اجازت کے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی جب میری باری کا دن آیا اور آپ تشریف لائے۔ تو میں نے کہا۔ یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی آپ نے فرمایا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں فرمایا اگر تم اس کو اپنے نانہال والوں کو دے دیتیں تو اس کا تم کو بڑا اجر ملتا۔
(بخاری و مسلم)

صلہ رحمی سے عمر میں برکت

۲۰۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے رزق میں کشائش چاہتا ہو اور اپنی عمر میں ترقی چاہتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔
(بخاری و مسلم)

رشتوں کا پاس و لحاظ

۲۰۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے آہستہ نہیں بلکہ بلند آواز سے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ فلاں خاندان کے لوگ میرے دوست نہیں ہیں بلکہ اللہ میرا دوست ہے اور نیک مومن ہمارے دوست ہیں لیکن ان کا رشتہ ہے اس رشتہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں۔ (بخاری مسلم)

دہری فضیلت

۲۰۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے عورتو! تم صدقہ کرو۔ چاہے اپنے زیور ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی اور ان سے کہا کہ آپ خالی ہاتھ ہیں (یعنی غریب) اور حضور ﷺ نے ہم کو صدقہ کا حکم دیا ہے آپ جا کر حضور ﷺ سے پوچھ لیں اگر آپ کو میرا صدقہ دینا درست ہے تو اچھا ہے ورنہ دوسرے لوگوں پر خرچ کروں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا۔ بلکہ تم ہی جاؤ چنانچہ میں حضور ﷺ کے پاس گئی دیکھتی ہوں کہ حضرات انصار میں سے ایک عورت حضور ﷺ کے دروازہ پر کھڑی ہے اس کے آنے کا مقصد بھی وہی تھا جو میرا، حضور ﷺ بارعب تھے (بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی) چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکل کر ہمارے پاس آئے ہم نے ان سے کہا۔ آپ حضور ﷺ کے پاس تشریف لے جائیں۔ اور اطلاع کر دیں کہ دروازہ پر دو عورتیں کھڑی ہیں۔ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہروں اور ان کے زیر کفالت یتیموں پر صدقہ دیں تو جائز ہے یہ نہ بتائیے کہ ہم لوگ کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ دونوں کون ہیں؟ حضرت بلال نے کہا۔ ایک انصاریہ ہیں دوسری زینب ہیں حضور ﷺ نے پھر پوچھا کون سی زینب؟ حضرت بلال نے بتلایا عبداللہ کی بیوی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ان دونوں کو دہراجر ہے۔ رشتہ کا اجر اور صدقہ کا اجر۔ (بخاری مسلم)

راہ خدا میں محبوب چیز صرف کرنی چاہئے

۲۰۴۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے ابو طلحہ (رضی اللہ عنہ) سب سے زیادہ مال والے تھے اور ان کے باغات میں ان کو بیرحاء سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور ﷺ اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے، جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ”لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبون“، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس گئے اور عرض کیا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبون“، میرا سب سے زیادہ محبوب مال بیرحاء ہے وہ اللہ کے لئے صدقہ ہے، میں اللہ کے نزدیک اس کے نیکی اور ذخیرہ ہونے کی امید کرتا ہوں لہذا اے اللہ کے نبی۔ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں صرف فرمائیے، حضور ﷺ نے فرمایا۔ بہت خوب یہ نفع بخش مال ہے میں نے تمہاری بات سن لی میرا خیال ہے کہ تم اس کو اپنے عزیزوں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں یہی کروں گا چنانچہ اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔

(بخاری و مسلم)

رشتہ داروں کا زیادہ حق

۲۰۵۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا تو صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صرف کرنے میں دہرا اجر ہے۔ صدقہ کا اور صلہ رحمی کا۔

(ترمذی)

گھروالوں پر خرچ کرنے کا اجر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور جو لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ
(خیر خیرات میں) کتنا خرچ کیا کریں آپ فرما
دیجئے جتنا آسان ہو۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

(البقرة، آیت: ۲۱۹)

اور ارشاد ہے

جس کا بچہ ہے اس پر لازم ہے (دودھ پلانے والی
عورتوں) کا کپڑا، کھانا بھلائی کے ساتھ۔

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة، آیت: ۲۳۳)

اور ارشاد ہے

اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو جتنی گنجائش
ہو اور جس پر خرچ تنگ ہو گیا ہو تو اس کو چاہئے
کہ اس چیز کو خرچ کرے جو اس کو اللہ نے دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اس
کی وسعت کے مطابق۔

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قَدِرَ

عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ،

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾

(الطلاق، آیت: ۷)

اور ارشاد ہے

تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ تم کو اس کا عوض
دے گا۔

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾

(سبا، آیت: ۳۹)

گھروالوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا

۲۰۶۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان اپنے گھروالوں پر اجر طلب کرتے ہوئے خرچ کرے تو یہ صدقہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

بیوی کو کھلانے کا ثواب

۲۰۷۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم اپنے درتاء کو کھاتا پیتا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو ننگا بھوکا چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اس پر اجر کے مستحق ہو گے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک قلم بھی رکھو۔ (بخاری و مسلم)

اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب

۲۰۸۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا، کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں بنو سلمہ پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ میں ان کو بُری حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ میری ہی اولاد ہیں، آپ نے فرمایا ہاں، تم ان پر جو کچھ بھی خرچ کر دو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ (بخاری و مسلم)

گھروالوں پر خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے

۲۰۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے راستہ میں دینار خرچ کرتے ہو، کسی غلام کو آزاد کرنے میں دینار خرچ کرتے ہو، کسی غریب پر دینار خرچ کرتے ہو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجر تم کو اس پر ملے گا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ (بخاری)

افضل ترين دينار

۲۱۰۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولیٰ (آزاد کردہ غلام) رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، افضل ترين دينار وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور ان جانوروں پر خرچ کیا جائے، جو اللہ کے راستہ میں کام آتے ہیں، اور وہ دينار جو اللہ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں میں خرچ کئے جائیں۔ (مسلم)

اپنے متعلقين کی مدد نہ کرنا بڑا گناہ ہے

۲۱۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، انسان کا یہ گناہ کافی ہے کہ وہ جس کا کفیل ہو اسکی کفالت سے ہاتھ اٹھالے۔ (ابوداؤد مسلم)

گھر والوں کی فکر مقدم

۲۱۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگ صدقہ کرو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول! میرے پاس ایک ہی دينار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنے ہی اوپر صدقہ کر لو، پھر اس نے کہا میرے پاس دوسرا بھی ہے آپ نے فرمایا، اس کو اپنے لڑکے پر صدقہ کر دو، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پر صدقہ کر دو، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اس کو کہاں خرچ کرو۔ (ابوداؤد و نسائی)

۲۱۳۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو عذرہ کے ایک شخص نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنایا، (یعنی کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو) رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے، اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا: اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے، چنانچہ نعیم بن عبد اللہ عدوی نے اس کو آٹھ

سو درہم میں خرید لیا، رسول اللہ ﷺ وہ آٹھ سو درہم لے کر اس شخص کے پاس تشریف لائے، اور اس کو دے دیا، پھر فرمایا، اپنے آپ سے شروع کرو، پہلے اپنے اوپر صدقہ کرو، پھر اگر بچتا ہے تو بال بچوں پر صدقہ کرو، بال بچوں سے بھی بچتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اگر رشتہ داروں سے بھی بچتا ہے، تو پھر دل کھول کر جو بھی سامنے آجائے اس کو دو۔ (مسلم)

۲۱۴۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنو نضیر کا کھجور کا باغ فروخت فرماتے اور گھروالوں پر سال بھر کا خرچ روک لیتے تھے۔ (بخاری)

بیوی پر شوہر کے حقوق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء، آیت: ۳۴)

مرد، عورتوں پر حاکم و نگران ہیں اسلئے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اسلئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

خیر کے کام میں بھی شوہر کی اجازت ضروری

۲۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، شوہر گھر میں موجود ہو۔ سفر وغیرہ میں نہ ہو، تو اس کی اجازت کے بغیر کسی عورت کو روزہ (نفل) رکھنا جائز نہیں۔ ایسے ہی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا درست نہیں۔ (بخاری و مسلم)

بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت

۲۱۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر ناراضگی میں رات گزار دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

شوہر کی ناشکری، بیوی کے لئے عذاب کا سبب

۲۱۷۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ اس میں وہ عورتیں زیادہ ہیں، جو کفر کرتی ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر احسان کرو، پھر وہ تمہاری طرف سے ایک بار بھی کوئی ناگواریاں دیکھے تو کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہی نہیں۔ (بخاری)

شوہر کی خوشی میں بیوی کی نجات

۲۱۸۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ (ترمذی)

شوہر کا مرتبہ و مقام

۲۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی کے لئے کسی شخص کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (ترمذی)

سب سے اچھی عورت

۲۲۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا، کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے بہتر وہ عورت ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو، کوئی حکم دے تو اس کو وہ بجالائے، اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی ذات یا شوہر کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے، جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو۔ (نسائی)

عورت فتنہ ہو سکتی ہے

۲۲۱۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے اوپر۔

(بخاری و مسلم)

رسول اللہ ﷺ کی تشبیہ

۲۲۲۔ حضرت حصین بن محمد بن سنان سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے شوہر ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہوں، سوائے ایسے کام کے جس کو میں خود نہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا یہ تم اس کے ساتھ کیا کرتی ہو، وہی تمہاری جنت و دوزخ ہے۔
(نسائی)

عورت کو شکر گزار ہونا چاہئے

۲۲۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہ دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، جب کہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔
(نسائی)

عورتوں کے ساتھ حسن سلوک

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں سے بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾
(النساء، آیت: ۱۹)

اور ارشاد ہے

وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِهِنَّ﴾
(البقرة، آیت: ۱۸۷)

اور ارشاد ہے

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہر گز برابری نہ کر سکو گے تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف تمہارا جھکاؤ ہو جائے اور دوسری کو (ایسی حالت میں) چھوڑ دو کہ گویا ادھر لٹک رہی ہے۔

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾
(النساء، آیت: ۱۲۹)

عورتوں کے سلسلہ میں حضور ﷺ کی وصیت

۲۲۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، تم اس وصیت کو قبول کر لو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہے اگر سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ (بخاری و مسلم)

اچھی عورت بڑی نعمت ہے

۲۲۵۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا چند روزہ کام آنے والا سامان زندگی ہے، اور اس کا سب سے بہتر سامان نیک عورت ہے۔
(مسلم)

ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے

۲۲۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عبداللہ! کیا مجھے نہیں بتایا گیا، کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو نوافل میں مشغول رہتے ہو، میں نے عرض کیا ہاں! اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی نہ رکھو، رات کا کچھ حصہ نفل میں گزارو، پھر سو جاؤ، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔
(بخاری)

اچھائی پر نظر رکھے، اور بُرائی سے درگزر کرے

۲۲۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے ناراض نہ ہو، اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی، تو دوسری بات پسند آئے گی۔
(مسلم)

عورت کی عزت

۲۲۸۔ حضرت عبداللہ بن زعمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پیٹے، اور پھر وہ رات کے آخر حصہ میں اس کے پاس جائے۔
(بخاری)

بیویوں کے مابین انصاف نہ کرنے پر سزا

۲۲۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں انصاف نہ کرے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، کہ اس کا ایک پہلو لٹکا ہوا ہوگا۔
(ترمذی)

انصاف کی پوری کوشش ضروری ہے

۲۳۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جہاں تک میرے بس میں ہے سب بیویوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرتا ہوں جو بات میرے قابو میں نہیں تو ہی اُس پر قادر ہے، اس پر مجھے ملامت نہ فرما، یعنی دل کا کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہونا۔
(ابوداؤد، ترمذی وغیرہ)

عورتوں کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کی ہدایت

۲۳۱۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی! ہم لوگوں کی بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور پہنو تو اس کو پہناؤ، چہرہ پر نہ مارو، اور اس کو ناشائستہ الفاظ نہ کہو، اس کو گھر کے علاوہ کہیں اور نہ چھوڑو۔ (ابوداؤد)

اخلاق گھروالوں کے لئے بھی ضروری ہیں

۲۳۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتا ہو۔
(ترمذی)

مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے پر حقوق

۲۳۳۔ حضرت عمر و بن الاحوص جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں انھوں

نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو! سن لو تمہارا، تمہاری عورتوں پر حق ہے، اور تم پر تمہاری عورتوں کا حق ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں، جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، سن لو تمہارا، ان پر یہ حق ہے کہ تم ان کو اچھا پہناؤ اور اچھا کھلاؤ۔ (ترمذی)

رسول اللہ ﷺ کا فطرت کے مطابق معاملہ

۲۳۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب شی نیزہ بازی کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے آڑ فرمایا، اور میں دیکھتی رہی، اور برابر دیکھتی ہی رہی، حتیٰ کہ میں خرہ ہی چلی آئی، تم (اپنی نو عمر بیویوں) نو عمر لڑکیوں کے جذبات کا خیال رکھو، جو کھیل تماشوں کی دلدادہ ہوتی ہیں۔ (بخاری)

جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو، وہ سب سے اچھا ہے

۲۳۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ (ابن ماجہ)

رسول اللہ ﷺ کی دلداری

۲۳۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ تو میں آپ سے بڑھ گئی۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۲۳۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ میں نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میری کچھ سہیلیاں تھیں، جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، تو جب رسول اللہ ﷺ گھر میں تشریف لاتے، تو وہ گھبرا کر الگ ہو جاتیں، آپ ان کو میرے پاس بھیج دیتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں۔ (بخاری و مسلم)

بچوں کی تعلیم و تربیت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم، آیت: ۶)

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش
(جہنم) سے بچاؤ۔

اور ارشاد ہے

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا﴾ (طہ، آیت: ۱۳۲)

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر
قائم رہو۔

ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس پر وہ جواب دہ ہوگا

۲۳۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ حاکم رعیت کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مرد ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری پر سوال کیا جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو صدقہ کے کھجور کھانے کی ممانعت

۲۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کا ایک کھجور اٹھالیا اور اس کو منہ میں رکھ لیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں نہیں۔ اس کو پھینک دو تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

کھانے کے آداب

۲۴۰۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی پرورش میں تھا میرا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف جاتا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بچے! بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (بخاری و مسلم)

بچوں کو نماز کا حکم

۲۴۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سات سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دو۔ اور ان کے بستر الگ کر دو (یعنی دس سال) یا زیادہ عمر کے بچے ایک بستر پر نہ سویں۔ (ابوداؤد)

بچے کو ادب سکھانا ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے

۲۴۲۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع صدقہ کرے۔ (ترمذی)

اچھی تہذیب و ادب بہترین تحفہ ہے

۲۴۳۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کوئی باپ اپنے بچے کو اچھی تہذیب و ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ (ترمذی)

لڑکی اور لڑکے کی برابری سے پرورش و دخول جنت کا سبب

۲۴۴۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جس کے لڑکی ہو اور اس کو وہ زندہ درگور نہ کرے اور اس پر اپنے لڑکے کو بھی ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ (ابوداؤد)

لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کا مقام

۲۴۵۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئیں۔ قیامت کے دن میں اور وہ ساتھ آئیں گے۔ اور اپنی انگلیوں کو ملا لیا۔
(مسلم)

تین لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا جنتی ہے

۲۴۶۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی ان کو تہذیب و ادب سکھایا اور شادی کر دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لئے جنت ہے۔
(ابوداؤد)

بیٹی کی کفالت صدقہ ہے

۲۴۷۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتا دوں وہ تمہاری بیٹی جس کے اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں اور تمہارے علاوہ اس کے لئے کوئی کمانے والا نہ ہو۔
(ابن ماجہ)

اولاد میں برابری کا حکم

۲۴۸۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو لیکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور فرمایا میں نے اس لڑکے کو اپنا ایک غلام دے دیا ہے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا اپنے سب لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے؟ والد صاحب نے فرمایا نہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ میرے والد خدمت اقدس سے واپس آئے تو یہ ہدیہ واپس لے لیا۔
(بخاری و مسلم)

مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ محبت و نرمی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ مستقل لئے رہو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گذر کر) اور طرف نہ دوڑیں کیا آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار بننا چاہتے ہو۔

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾
(الکہف، آیت: ۲۸)

اور ارشاد ہے

اور تم یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچ جائیں۔

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾
(الانعام، آیت: ۱۵۲)

اور ارشاد ہے

تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (النضحی، آیت: ۹-۱۰)

اللہ والوں کی فضیلت

۲۴۹۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ہم چھ آدمی تھے۔ کفار نے کہا ان لوگوں کو ہٹا دیجئے کہ ہم پر جبری نہ ہو جائیں۔ اور ان چھ آدمیوں

میں ابن مسعود ایک آدمی بنو ہذیل کا بلال اور دو آدمی اور تھے جن کا نام نہیں لوں گا۔ حضور ﷺ کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا۔ جو منجانب اللہ منظور تھا۔ چنانچہ فوراً آیت نازل ہوئی۔ ”ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ“۔ (اور جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کو دھنکارو نہیں۔ (مسلم)

اللہ والوں کی فضیلت

۲۵۰۔ حضرت عائذ بن عمرو مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال کے پاس آئے، جو کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے ان حضرات نے کہا۔ کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تلواروں نے اپنا پورا جواہر نہیں دکھایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات سے کہا۔ کہ کیا تم قریش کے بزرگ اور سردار سے اس طرح کی بات کہتے ہو۔ پھر حضور ﷺ تشریف لائے آپ نے فرمایا۔ ابو بکر شاید تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا۔ اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر ان لوگوں کے پاس آئے اور پوچھا میرے بھائیو! کیا آپ لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ نہیں۔ میرے بھائی خدا آپ کو معاف کرے۔ (مسلم)

کمزوروں کی فضیلت

۲۵۱۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ دوسروں پر فائق ہیں حضور ﷺ نے فرمایا۔ تمہارے کمزوروں ہی کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے اور رزق ملتا ہے۔ (بخاری)

یتیم کی کفالت

۲۵۲۔ حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے۔ کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

بیوہ اور مسکین کی خبر گیری پر اجر عظیم

۲۵۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ بیوہ اور مسکین کی خبر لینے والا، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی طرح ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا اس عابد کی طرح ہے جو ست نہ ہو پڑے اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرے۔ (بخاری و مسلم)

بُری دعوت

۲۵۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ بُرا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے جو خود سے آنا چاہیں اور ان لوگوں کو بلایا جائے جو آنے سے انکار کریں (۱) اور جو دعوت قبول نہ کرے گا۔ وہ اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ (بخاری و مسلم)

یتیم کی کفالت

۲۵۵۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ (اور یہ فرماتے ہوئے) کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں کچھ فرق رکھ کر بتایا کہ اس طرح۔ (مسلم)

لڑکیوں کی پرورش

۲۵۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جو دو لڑکیوں کی پرورش اس وقت تک کرے کہ وہ جوان ہو جائیں۔ تو قیامت کے دن وہ آئے گا۔ میں اور وہ اس طرح ہوں گے اور آپ نے انگلیوں کو ملا دیا (۲)۔ (مسلم)

(۱) یعنی کھاتے پیتے آسودہ امراء کو بلائے اور ضرورت مندوں کو غریبوں کو روکا جائے۔

(۲) یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بہت قریب رکھے گا۔

لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک سبب نجات جہنم ہے (۱)

۲۵۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی میں نے اس کو دے دیا تو اس نے اس کو اپنی دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دیا۔ خود کچھ بھی نہ کھایا۔ اور چلی گئی۔ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ جو لڑکیوں میں کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے (۲) اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو وہ لڑکیاں اس کے لئے آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ (بخاری و مسلم)

(۱) یعنی لڑکیوں کی پرورش کوئی آسان کام نہیں ہے اور یوں بھی عرب کے لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔

اب جو ان کی پرورش کرے گا وہ اللہ کے لئے کرے گا۔

(۲) یعنی ان کی پرورش اس کے ذمہ ہو۔

پڑوسی کا حق اور اسکے بارے میں وصیت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، وَ
الْيَتَامَىٰ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء، آیت: ۳۶)

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی
کو شریک نہ کرو۔ اور بھلائی کرو والدین کے
ساتھ۔ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں
اور مسکینوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے
پڑوسی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہ گیر
کے ساتھ بھی اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی
نیکی کرو۔

حضرت جبرئیل کی تاکید

۲۵۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام ہم کو برابر ہمسائے کے بارے میں وصیت
کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھ کو خیال ہوا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیں۔ (بخاری مسلم)

ایمان کی شرط

۲۵۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ وہ مومن
نہیں۔ یہ تین مرتبہ فرمایا۔ کہا گیا کون اے اللہ کے نبی ﷺ؟ فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا
پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ (بخاری مسلم)

کسی تحفہ کو حقیر نہ سمجھو

۲۶۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے مسلمان عورتو! پڑوسن اپنے پڑوسن کے لئے کسی تحفہ کو حقیر نہ سمجھے (۱)۔ اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ (بخاری مسلم)

ہمسائے کو تکلیف نہ دے

۲۶۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ (بخاری مسلم)

دیوار میں لکڑی گاڑنے سے روکنا نہ چاہئے

۲۶۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار وغیرہ میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کیا بات ہے کہ تم اس سے اعتراض کرتے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہارے شانوں کے درمیان اس کو بھینک دوں گا۔ (یعنی ضرور بیان کروں گا) (بخاری مسلم)

قریب تر پڑوسی زیادہ مستحق ہے

۲۶۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں کس کو میں تحفہ بھیجوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب تر ہو۔ (بخاری)

(۱) بعض اوقات بڑے اور خاص تحفہ کے چکر میں سالوں گزر جاتے ہیں اور اس کی توفیق نہیں ہوتی۔

سالن کی زیادتی سے پڑوسی کی مدد

۲۶۴۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے ابو ذرؓ جب تم کوئی سالن پکاؤ۔ تو شور بہ زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ (مسلم)

نیک دوست اور نیک پڑوسی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں

۲۶۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو۔ بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لئے بہتر ہو۔ (ترمذی)

غیر منقسم چیز میں حق شفعہ

۲۶۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر ایسی مشترک چیز میں شفعہ کا فیصلہ دیا۔ جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو۔ چاہے وہ جاندار ہو یا باغ ہو۔ وہ جب تک اپنے شریک کو اطلاع نہ کر دے بیچنا درست نہیں ہے۔ چاہے وہ شریک خریدے یا وہ چھوڑے۔ اگر اس نے بیچ دیا اور اطلاع نہیں کی تو وہی زیادہ حقدار ہے۔ (مسلم)

پڑوسی کو بھی شفعہ کا حق ہوتا ہے

۲۶۷۔ حضرت عمرو بن شریذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ان کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حضرت مسور سے کہا۔ کہ کیا آپ ان سے نہیں کہتے کہ یہ میرا وہ مکان خرید لیں جو ان کے گھر سے ملا ہوا ہے۔ (حضرت عمرو بن شریذ نے) کہا۔ میں چار سو سے زیادہ نہیں دوں گا۔ چاہے قسط وار لے لیں یا اکٹھا لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ پانچ سو اکٹھا لے رہا تھا۔ میں نے اس کو نہیں بیچا۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی کو شفعہ کا حق ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے ہاتھ نہ بیچتا۔ (بخاری)

مہمان نوازی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

کیا ابراہیمؑ کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے (یہ قصہ اس وقت کا ہے) جبکہ وہ مہمان ان کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ ابراہیمؑ نے بھی (جواب میں) سلام کیا (اور کہنے لگے) انجان لوگ ہیں پھر اپنے گھر کی طرف چلے فریب پھڑپلا ہوا لائے۔

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، قَالَ : سَلَامٌ قَوْمٍ مُنْكَرُونَ، فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ﴾
(الذاریات، آیت: ۲۳-۲۶)

اور ارشاد ہے

اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی آئی اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے لوط علیہ السلام فرمانے لگے! اے میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے نفس کی کامرانی کے لئے اچھی خاصی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی معقول بھلا آدمی نہیں۔

﴿وَجَاءَ هُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قَالَ : يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ! وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾
(صود، آیت: ۷۸)

مہمان کی عزت و احترام

۲۶۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ (بخاری و مسلم)

تین دن کی میزبانی، اس کا حق

۲۶۹۔ حضرت خویلد بن عمرو (ابو شریح کعمی) سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن ایک رات کی مہمانی تو خصوصی اہتمام کے ساتھ کرے، اور کل مہمانی تین دن کی ہے، اس کے بعد مہمان پر جو خرچ ہو وہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لئے درست نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں رُکار ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لئے پریشانی کا باعث بنے۔ (بخاری و مسلم)

بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا

۲۷۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا آج رات اس شخص کو کون مہمان بنائے گا، حضرات انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں مہمانی کروں گا، اور اس شخص کو لے کر قیام گاہ گئے، اور اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے، بیوی نے جواب دیا، نہیں، صرف بچوں کا کھانا ہے، انصاری نے کہا، بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، جب رات کا کھانا مانگیں، تو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان اندر داخل ہو، تو چراغ بجھا دو، اور مہمان پر ایسا ظاہر کرو کہ جیسے ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھالیا اور ان دونوں نے خالی پیٹ رات گزار دی، جب صبح ہوئی تو وہ انصاری خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

زائد چیز دوسروں کو دینا

۲۷۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، ایک شخص اپنی سواری پر آیا، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایا، جس کے پاس سواری زائد ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اور جس کے پاس زاد راہ زائد ہو، وہ اس کو دے دے جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس طرح سے بہت سے مالوں کا ذکر کیا، ہم لوگ یہ سمجھے کہ زائد مالوں میں ہم لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ (مسلم)

ایک دن کی مہمانی فرض ہے

۲۷۲۔ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مہمان کی رات بھر کی مہمانی ہر مسلمان پر فرض ہے، جو اس کے دروازہ پر پہنچ جائے وہ اس پر مثل قرض کے ہے (یعنی اس کی مہمانی اس پر ضروری ہے جس طرح قرضہ کی ادائیگی) چاہے اس کو پورا کرے، اور چاہے اس کو چھوڑ دے۔ (ابوداؤد)

۲۷۳۔ حضرت مقدم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی کسی قوم کا مہمان ہو پھر وہ محروم ہو، اس کی مدد ہر مسلمان پر ضروری ہے حتیٰ کہ رات بھر کی مہمانی اس کی کھستی اور مال سے بغیر اجازت لے سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

خوش اخلاقی اور مہربانی کی اہمیت و فضیلت

دوسروں پر رحم کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں

۲۷۴۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہ کھائے گا اللہ اس پر رحم نہ کھائے گا۔ (بخاری و مسلم)

۲۷۵۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا (اللہ کی مخلوق پر) رحم کھانے والوں اور (ان کے ساتھ) رحم کرنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی تم زمین والی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ (ابوداؤد)

بد بخت و بد نصیب رحمت سے محروم

۲۷۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بد بخت کے دل سے۔ (ابوداؤد)

رحمت کا بدلہ رحمت

۲۷۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (بخاری و مسلم)

غلاموں کے بارے میں نرمی

۲۷۸۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی کہ ابو مسعود جان لو، غصہ کی وجہ سے میں آواز کو پہچان نہ سکا (کہ یہ کس کی آواز ہے) جب وہ مجھ سے قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہ حضور ﷺ ہیں آپ فرما رہے تھے کہ اے ابو مسعود! تم کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ تم جتنا اس غلام پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے، میں نے کہا، اس کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ (مسلم، ابوداؤد وغیرہ)

مار کے بدلہ غلام کی آزادی

۲۷۹۔ حضرت زاذان کنذی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، تو وہ اپنے غلام کو آزاد کر چکے تھے، انہوں نے زمین سے لکڑی یا کوئی اور چیز اٹھائی اور فرمایا مجھے اتنا بھی اجر نہیں ملا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ جس شخص نے (اپنے) کسی غلام کو چائنا سید کیا یا اس کو مارا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ (مسلم، ابوداؤد)

خرچہ روکنا گناہ ہے

۲۸۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ ان کے پاس ان کا کارندہ آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے غلام کو اس کا خرچہ دے دیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا جاؤ اور ان کو (ان کا خرچہ) دے دو (پھر) فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس کا وہ ذمہ دار ہے اس کا خرچہ روکے رکھے۔ (مسلم)

کثرت سے عفو و درگزر کی تاکید

۲۸۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول (ﷺ) کتنی بار خادم کو معاف کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر دن ستر مرتبہ۔
(ابوداؤد، ترمذی)

ظلم کرنے والوں پر اللہ کا عذاب

۲۸۲۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ شام میں کچھ کسانوں کے پاس سے گزرے جو دھوپ میں کھڑے کر دئے گئے تھے، اور ان کے سروں پر تیل ڈال دیا گیا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ ان کو خراج کے سلسلہ میں سزا دی جا رہی ہے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، چنانچہ وہ حاکم کے پاس گئے اور اس سے بیان کیا، حاکم نے حکم دیا، اور وہ لوگ چھوڑ دئے گئے۔
(مسلم، ابوداؤد، نسائی)

جانوروں کے ساتھ نرمی اور رحم کے برتاؤ کی فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور سلیمان (علیہ السلام) کے پاس اس کے لشکر
میں جن و انسان اور پرندے جمع کئے جاتے پھر
ان کی جماعتیں بنائی جاتیں، یہاں تک جب
چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے ایک چیونٹی نے
کہا اے چیونٹیو، اپنے گھروں میں گھس جاؤ،
تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پس ڈالیں،
اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ، وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَّى
إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ:
يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِينَكُمْ، لَّا
يَخْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ﴾ (النمل، آیت: ۱۷-۱۸)

کتے کو پانی پلانے پر مغفرت

۲۸۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ، اس اثناء میں ایک آدمی راستہ پر چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی چلتے چلتے اس کو ایک کنواں ملا،
وہ اس کے اندر اترا، اور پانی پی کر باہر نکل آیا، کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا
ہے، جس کی زبان نکلی ہوئی ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کچھڑ چاٹ رہا ہے، اس آدمی نے

دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ میں تھاما، اور کنویں سے باہر نکل آیا، اور اس پانی کو کتے کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی اور محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرمادیا۔

بعض صحابہؓ نے یہ واقعہ سن کر حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جانوروں (کی تکلیف دور کرنے) میں بھی ہمارے لئے اجر ہے، آپ نے فرمایا ہاں! ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانوروں (کی تکلیف دور کرنے) میں اجر و ثواب ہے۔ (بخاری و مسلم)

کھیت اور درخت سے پرندہ کا کھانا کارِ ثواب ہے

۲۸۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو کوئی مسلم بندہ کسی درخت کا پودہ لگائے یا کھیتی کرے، پھر کوئی پرندہ یا انسان، یا چوپایہ اس درخت یا کھیتی سے کھائیں تو یہ اس بندہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

بلی کو ستانے پر عذاب

۲۸۵۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کے سلسلہ میں عذاب دیا گیا، اس نے نہ اس کو کھانے کو دیا اور نہ پینے کو اور نہ ہی اُسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ (بخاری و مسلم)

اپنی غرض کی خاطر کسی جاندار کو تکلیف دینا گناہ ہے

۲۸۶۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرے جو ایک چڑیا کو لٹکا کر نشانہ بازی کر رہے تھے، چڑیا کے مالک سے یہ طے کر لیا تھا کہ جو تیر نشانہ سے خطا ہو گا وہ تمہارا ہو گا۔ جب انھوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو منتشر

ہو گئے۔ ابن عمرؓ نے پوچھا یہ کس نے کیا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ حضور ﷺ نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جس نے کسی جانور کو نشانہ کی مشق کرنے کے لئے ہدف بنایا ہو۔ (بخاری و مسلم)

جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ممانعت

۲۸۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

جانوروں کو تکلیف دینے والوں پر اللہ کی لعنت

۲۸۸۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے منہ کو داغا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ جس نے اس کو داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ (مسلم)

آگ سے جلانا کسی انسان کے لئے مناسب نہیں

۲۸۹۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے اس اثناء میں ہماری نظر ایک چھوٹی سی چڑیا (غالباً نیل کھ) پر پڑی۔ جس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی، اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے آپ نے دریافت کیا کہ کس نے اس کے بچے کو پکڑ کر ستایا ہے؟ اس کا بچہ اس کو واپس کرو۔ اور آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی (یعنی زمین کا ایک حصہ جہاں چیونٹیوں کے بہت سوراخ تھے) ہم نے وہاں آگ لگادی تھی۔ آپ نے پوچھا کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آگ ہم نے لگائی ہے آپ نے فرمایا۔ آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کیلئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ (ابوداؤد)

جانوروں کو تکلیف دینے کی ممانعت

۲۹۰۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے باغ تشریف لے گئے۔ باغ میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو بلبلا یا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے کوہان اور منجھلے حصہ کو سہلایا۔ پھر فرمایا۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا اور اس نے کہا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم خدا سے اس جانور کے بارے میں ڈرتے نہیں ہو؟ جس خدا نے تم کو اس کا مالک بنایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ (احمد ابوداؤد)

جانوروں کے سلسلہ میں حضور ﷺ کی ہدایات

۲۹۱۔ حضرت سہل بن عمرو رضی اللہ عنہ اور کہا گیا ہے سہل ابن ربیع ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے ملا جا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اچھی حالت میں ان پر سواری کرو۔ اور اچھی حالت میں ان کو ذبح کرو۔ اور کھاؤ۔ (ابوداؤد)

۲۹۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم ہرے بھرے علاقہ میں سفر کرو۔ تو تم جانور کو زمین سے کھانے دو۔ اور جب تم خشک و چٹیل علاقے میں سفر کرو تو تیز چلو۔ اور اس کے کمزور ہونے تک منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ اور جب کہیں رات گزارو۔ تو راستہ سے ہٹ کر رات گزارو۔ اسلئے کہ وہ چوپایوں کی گذرگاہ اور کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے۔

(مسلم)

آداب معاشرت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النور، آیت: ۲۷)

اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر
میں نہ داخل ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور
سلام نہ کر لو۔

اور ارشاد ہے

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ﴾ (النور، آیت: ۵۹)

جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو
انہیں چاہئے کہ اس طرح اجازت لیں جس
طرح ان کے اگلے اجازت لیتے تھے۔

اور ارشاد ہے

﴿وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً
طَيِّبَةً﴾ (النور، آیت: ۶۱)

جب تم گھر میں جانے لگو تو اپنے لوگوں پر سلام
کرو، یہ دعائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
برکت والی اور عمدہ ہے۔

اور ارشاد ہے

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهَا﴾ (النساء، آیت: ۸۶)

جب تم کو کوئی دعادے تو تم اس کو اس سے بہتر
دعا دو یا الٹ کر وہی دعا اس کو دے دو۔

اور ارشاد ہے

کھاؤ، پیو اور پہچانہ اڑاؤ اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الاعراف، ۳۱)

اور ارشاد ہے

اے بنی آدم ہم نے تم پر وہ لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی کرے اور اتارا ہم نے عزت کا پہناوا۔

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سِوَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾ (الاعراف، ۳۶)

اور ارشاد ہے

اور تمہارے ایسے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے جو تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائیں۔

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ (النحل، آیت: ۸۱)

اور ارشاد ہے

رات کو پردہ بنایا ہے اور دن کو معاش (کیلئے) بنایا ہے۔

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (النبا، آیت: ۱۰-۱۱)

اور ارشاد ہے

تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة، آیت: ۱۰)

پہچان اور بے پہچان والے کو سلام

۲۹۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اسلام میں کون سی بات بہتر ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا خواہ پہچان ہو یا نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

سلام کے احکام

۲۹۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل بیٹھنے والے کو اور تھوڑے بہت کو سلام کریں۔ (بخاری و مسلم)

جدا ہونے کے بعد پھر سلام

۲۹۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے اگر درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو پھر اس سے ملے تو اس کو سلام کرے ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جب جدا ہونے لگے تو پھر سلام کرے۔ (ابو داؤد)

خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت

۲۹۶۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیک کام میں تھوڑے کام کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ (مسلم)

مصافحہ کا ثواب

۲۹۷۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں تو ان دونوں کے گناہ جدا ہونے سے پہلے بخش دیئے جائیں گے۔ (ابو داؤد)

آنے والے سے معافقہ

۲۹۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ زید دروازہ پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا آپ ان کی طرف چلے اور اپنے کپڑوں کو کھینچتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے پھر آپ نے ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ (ترمذی)

تین بار کی اجازت طلبی

۲۹۹۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
تین بار اجازت لینی چاہئے اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔
(بخاری و مسلم)

کسی کو اٹھا کر بیٹھنے کی ممانعت

۳۰۰۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی کسی کو اٹھا کر اس جگہ پر نہ بیٹھے اور مجلسوں میں وسعت و گنجائش پیدا کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے جو جگہ خالی کر دیتا تھا تو وہ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔
(بخاری و مسلم)

۳۰۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی مجلس سے اٹھ کر جائے اور پھر پلٹے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔
(مسلم)

جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے

۳۰۲۔ حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے تھے تو ہم میں کاہر شخص جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا۔
(ابوداؤد و ترمذی)

ساتھ بیٹھنے والے کو علاحدہ نہ کرے

۳۰۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جائز نہیں کسی شخص کے لئے کہ وہ دو آدمیوں کو الگ الگ کر دے مگر ان کی اجازت سے۔
(ابوداؤد و ترمذی)

ایک کو چھوڑ کر دو کو رازدارانہ باتیں نہ کرنی چاہئے

۳۰۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں رازدارانہ گفتگو نہ کریں الا یہ کہ تمہارے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں تنہا وہ شخص ہوگا تو اسکو ناگواری ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

چھینک کی دعا اور اس کا جواب

۳۰۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمد للہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھی جواب میں یَرْحَمُكَ اللَّهُ (تم پر خدا کی رحمت ہو) کہے پھر وہ جواب میں يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ (اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہاری حالت درست فرمائے) کہے۔ (بخاری)

مریض کی عیادت سے جنت کی بہاروں کا حصول

۳۰۶۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک واپس نہ آجائے تو جنت کی بہاروں میں ہوتا ہے۔ فرمایا۔ یعنی اس کے میوؤں کو چننا ہوتا ہے۔ (مسلم)

مریض سے کیا کہا جائے؟

۳۰۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے: فرمایا۔ ”لَا بَأْسَ ظَهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى“۔ (بخاری و مسلم)

اپنے کاموں کو داہنے طرف سے شروع کرو

۳۰۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنا ہر کام داہنے طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ طہارت حاصل کرنے، کنگھی کرنے اور جو تاپہننے میں بھی۔ (بخاری و مسلم)

بِسْمِ اللّٰهِ کہنا بھول گیا ہو تو!

۳۰۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اگر کھانے کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ کہنا بھول گیا تو ”بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلٰهُ وَاٰخِرَةُ“ پڑھ لے۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)

حضور ﷺ نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا

۳۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، پسند آیا تو کھالیا، ناپسند ہو تو چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم)

ادب اور تہذیب کی تعلیم

۳۱۱۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کے زیر پرورش ایک بچہ تھا، میرا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف جاتا، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: لڑکے! بِسْمِ اللّٰهِ کرو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (بخاری و مسلم)

تین سانس میں پانی پینے کی ہدایت

۳۱۲۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں نہ پیا کرو، اور تین سانس میں پیو اور جب پیو تو ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہہ کر اور پی چکو تو ”الحمد للہ“ کہو۔ (ترمذی)

کھڑے کھڑے کھانے پینے سے ممانعت

۳۱۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، حضرت قتادہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا اور کھانا کھڑے ہو کر کھانا؟ فرمایا: وہ تو اور بھی بُرا اور ناپسندیدہ ہے۔ (مسلم)

ریشم و دیباج کے استعمال سے ممانعت

۳۱۴۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا: ریشم اور دیباج کے کپڑے پہننے اور سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے اور فرمایا یہ ان کے لئے (یعنی ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کافر ہیں) دنیا میں ہے، اور تمہارے لئے آخرت میں۔ (بخاری و مسلم)

بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں

۳۱۵۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو، وہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی (سفید کپڑوں) میں اپنے مُردوں کو دفناؤ بھی۔ (ابوداؤد و ترمذی)

دوسرے رنگوں کا جواز

۳۱۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ میانہ قد کے تھے، میں نے آپ ﷺ کو سرخ دھاری والے جوڑے میں دیکھا، آپ اتنے حسین معلوم ہو رہے تھے، کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز کبھی میں نے دیکھی ہی نہیں۔ (بخاری و مسلم)

۳۱۷۔ حضرت رفاعہ تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دو سبز کپڑوں میں ملبوس پایا۔ (ابوداؤد و ترمذی)

۳۱۸۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے دن کالا عمامہ باندھے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے۔ (مسلم)

۳۱۹۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن صبح کو رسول اللہ ﷺ ایسی چادر زیب تن کئے ہوئے باہر نکلے جو کالے بالوں کی تھی اس پر کجاوے (اونٹ کے) بنے ہوئے تھے۔ (مسلم)

تکبر کی نحوست

۳۲۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالے گا، اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ) میرا کپڑا لٹک جایا کرتا ہے جبکہ اس کا خیال رکھتا ہوں (کہ ایسا نہ ہو) تو رسول اللہ (ﷺ) نے ان سے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں جو برہنائے تکبر ایسا کرتے ہیں۔ (بخاری)

اللہ کی نعمت کا اظہار

۳۲۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ (ترمذی)

مردوں کے لئے سونا اور ریشم حرام ہے

۳۲۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کیلئے حرام ہے اور انکی عورتوں کیلئے حلال ہے۔ (ترمذی)

مجبوری میں ریشمی کپڑے کی اجازت

۳۲۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ (ﷺ) نے حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو خارش کے سبب مکہ مکرمہ میں ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (بخاری و مسلم)

جمعرات کے دن سفر

۳۲۴۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) غزوہ تبوک کے لئے جمعرات کو نکلے اور آپ (ﷺ) جمعرات کو نکلنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تنہا سفر صحیح نہیں ہے

۳۲۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تنہا سفر کرنے کی جو مشکلات مجھے معلوم ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کوئی مسافر رات کو تنہا سفر نہ کرے۔ (بخاری)

تین مسافر ہوں تو ایک کو امیر بنا لیا جائے

۳۲۶۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تین آدمی سفر میں نکلیں تو ان کو چاہئے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ (ابوداؤد)

عورت کا سفر محرم کے ساتھ ہو

۳۲۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے درست نہیں کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کسی محرم کے بغیر کرے۔ (بخاری و مسلم)

سفر کا کام ہو جائے تو پھر رُکنا نہیں چاہئے

۳۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ کھانے پینے اور سونے کا موقع نہیں دیتا، جب تم میں سے کوئی شخص سفر کا مقصد پورا کر لے، تو اس کو اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنے میں جلدی کرنا چاہئے۔ (بخاری و مسلم)

رات کے وقت گھرنہ لوٹا جائے

۳۲۹۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر والوں سے زیادہ دنوں تک غائب رہے تو رات کے وقت گھرنہ لوٹے۔ (بخاری و مسلم)

سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد جائے

۳۳۰۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سفر سے واپس ہوتے تھے، تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

اپنے سے نیچے والے کو دیکھو

۳۳۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم (دنیاوی خوشحالی میں) اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو کہ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو (۱)۔ (بخاری و مسلم)

راستہ کے حقوق

۳۳۲۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم لوگ راستہ پر بیٹھنے سے احتراز کرو، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، اللہ کے نبی (ﷺ)! بیٹھنا تو ضروری ہے ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اگر بیٹھنا ہی چاہتے ہو، تو راستہ کا حق ادا کرو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، اللہ کے نبی (ﷺ)! راستہ کا حق کیا ہے، آپ نے فرمایا، نگاہ کا نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا، بُرائی سے روکنا۔ (بخاری و مسلم)

نگاہ نیچی رکھنے اور الگ الگ لیٹنے کی تاکید

۳۳۳۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، مرد، مرد کے جسم کے اس حصہ کو نہ دیکھے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ضروری ہے، اور نہ عورت کے بدن کے اس حصہ کو دیکھے جس کا چھپانا ستر میں داخل ہے، اور دو مرد ایک بستر میں نہ لیٹیں اور نہ دو عورتیں ایک بستر میں لیٹیں۔ (مسلم)

(۱) عون بن عبد اللہ فرماتے ہیں: کہ میں انبیاء کے ساتھ رہا، تو مجھے اپنے سے زیادہ کوئی عملگین نظر نہ آیا۔ اپنی سواری سے اچھی سواری دیکھتا، اپنے کپڑے سے اچھے کپڑے دیکھتا، غریبوں کے ساتھ رہا تو سکون ملا۔

دیور سے پردہ کی تاکید

۳۳۴۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے دور رہو، حضرات انصار میں سے ایک شخص نے پوچھا: دیور کے سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: دیور تو موت ہے، (یعنی اس کے ساتھ معصیت میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے)۔ (بخاری و مسلم)

معصیت (گناہ) سے بچنے کا طریقہ

۳۳۵۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں، کہ نامحرم عورت جب سامنے آتی ہے، تو شیطان بن کر سامنے آتی ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے، کہ اس کے پاس وہی ہے، جو اس غیر عورت کے پاس ہے۔ (ترمذی)

نیک لوگوں کی صحبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور جب (موسیٰ علیہ السلام نے) اپنے شاگرد سے کہا جب تک میں دو دریا کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں بیٹے کا نہیں، خواہ برسوں چلا رہوں۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾
(الکہف، آیت: ۶۰)

اور ارشاد ہے

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾
(الکہف، آیت: ۲۸)

اچھے اور برے ہمنشیں کی مثال

۳۳۶۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اچھے اور برے ہمنشیں کی مثال ایسی ہے جیسے مشک فروش اور بھٹی جلانے والا، مشک فروش یا تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اچھی خوشبو تو ملے گی ہی اور بھٹی جلانے والا یا تو تمہارے کپڑے جلادے گا یا کپڑے نہ بھی جلے تو بدبو ہی اس کے پاس ملے گی۔ (فائدہ کچھ نہیں)۔ (بخاری)

۳۳۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نیک

ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک فروش اگر اس سے تم کو کچھ نہ ملے گا تو خوشبو تو ملے گی ہی اور برے ساتھی کی مثال بھٹی جلانے والے کی سی ہے کہ اگر اس سے کپڑے نہ کالے ہوں گے تو دھواں تو لگے گا ہی۔
(ابوداؤد، نسائی)

اچھا انسان اچھا ہی ہوتا ہے

۳۳۸۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح کان ہیں۔ ان میں جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں اچھے ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد اچھے ہوتے ہیں جب کہ ان کو فہم دینی حاصل ہو جائے، تمام روحمیں دنیا میں آنے سے قبل ایک جگہ جمع کی گئیں جن دور و حوں کا تعارف ہو امانوس ہو گئیں، جن دونوں روحوں میں اجنبیت رہی ان میں اختلاف ہوا۔
(مسلم)

دوست اور ساتھی سے آدمی کی پہچان

۳۳۹۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ (ابوداؤد و ترمذی)

نیک اور شریف انسان کی خدمت کرنی چاہئے

۳۴۰۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم صرف مومن سے دوستی کرو اور کھانا متقی و پرہیزگار ہی کو کھلاؤ۔
(ابوداؤد و ترمذی)

اللہ کیلئے محبت کرنے والوں پر اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے

۳۴۱۔ حضرت ابو ادریس خولانی نے فرمایا میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے دانت چمکیلے تھے اور اس کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا جب ان میں کسی بات پر اختلاف ہوتا تو اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور اس کا فیصلہ تسلیم کرتے۔ میں نے اس نوجوان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں

ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ وہ ہم سے پہلے اٹھ چکے ہیں اور نماز میں مشغول ہیں میں نے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کیا۔ جب پڑھ چکے تو میں ان کے سامنے سے آیا اور سلام کیا۔ پھر میں نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا کیا اللہ کے لئے محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا۔ ہاں اللہ کے لئے۔ دوبارہ پھر انہوں نے کہا۔ کیا تم اللہ کے لئے محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے لئے پھر انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پھر فرمایا۔ خوشخبری سنو، میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میری رضا کے خاطر دو باہم محبت کرنے والے میرے لئے مل بیٹھنے والے میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے میری راہ میں مل کر موخرج کرنے والے لوگوں پر میری محبت واجب ہو گئی۔ (مؤطا امام مالک)

سب سے قیمتی چیز شوہر کے لئے نیک بیوی ہے

۳۴۲۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیت ”والذین یکنزون الذہب والفضة“ نازل ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آیت سونے چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم لوگ اسی کو حاصل کرتے، آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے افضل مال خدا کی یاد میں مشغول رہنے والی زبان، شکر گزار دل اور مومن عورت ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں شوہر کی معین (مددگار) ہو۔ (ترمذی)

دیندار خاتون کو شریک حیات بنانے میں کامیابی ہے

۳۴۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے شادی کرو کامیاب رہو گے۔ (بخاری و مسلم)

تواضع و خوش اخلاقی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم، ۳)

اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں۔

اور ارشاد ہے

﴿وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

اور جو غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیک کرنے

(آل عمران، آیت: ۱۳۴)

والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور ارشاد ہے

﴿وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تَمْشِ

اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اترا کر

فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

نہ چل، بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے،

مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان، آیت: ۱۸)

فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق

۳۴۴۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ سب سے بہتر اخلاق

والے تھے حضور ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم و بیانج اور ریشم بھی نہیں معلوم ہوا۔ نہ ہی حضور ﷺ

کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو سونگھی۔ میں نے دس سال حضور ﷺ کی خدمت کی

اس عرصہ میں مجھے اُف تک نہ فرمایا، نہ میرے کسی کام کے بارے میں فرمایا۔ تم نے کیوں کیا؟ اور

اگر کسی کام کو نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ (بخاری و مسلم)

۳۴۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک معمولی عورت رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی۔ (بخاری)

۳۴۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کیا اور فرمایا کہ یہ حضور ﷺ کی عادت مبارک تھی۔ (بخاری و مسلم)

نیکی اور برائی کا فرق

۳۴۷۔ حضرت نو اس بن سماعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا نیکی تو حسن اخلاق ہے اور گناہ ہر وہ بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ دوسرے کو اس کا علم ہو۔ (مسلم)

اچھے اخلاق کی فضیلت

۳۴۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فحش گو تھے اور نہ جھکف ہی ایسا فرماتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ (بخاری و مسلم)

گالی گلوج کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں

۳۴۹۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کے دن مسلمانوں کے ترازو میں اخلاق سے زیادہ کوئی اور عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور ناشائستہ بات کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ (ترمذی)

دخول جنت اور دخول جہنم کا سبب

۳۵۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل

لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا۔ خدا کا پاس و لحاظ اور خوش اخلاقی پھر دریافت کیا گیا۔ کون سا عمل لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ (ترمذی)

سب سے بہتر وہی ہے جو گھر والوں کے لئے بہتر ہو

۳۵۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لئے سب سے بہتر ہو۔ (ترمذی)

اخلاق کا اونچا مقام

۳۵۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان اپنے اخلاق سے روزہ دار اور تہجد گزار کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

بحث و مباحثہ میں الجھنا نقصان دہ ہے

۳۵۳۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے بحث و مباحثہ میں الجھنے کو ترک کر دیا، خواہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو، میں اس کے لئے جنت کے آس پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں اور جس شخص نے جھوٹ کو ترک کیا خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو میں اس کے لئے جنت کے اندر مکان دلانے کا ضامن ہوں اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، میں اس کو جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں مکان دلانے کا ضامن ہوں۔ (ابوداؤد)

بڑائی بگھارنے والے ناپسندیدہ ہیں

۳۵۴۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے قریب وہ شخص ہو گا جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں گے اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور مجھ سے دور تم

میں وہ لوگ ہوں گے، جو تکلف خوب باتیں کرتے ہیں اور حق سے تجاوز کر جاتے ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر بات کرنے والے، تکلف فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنے والے، اپنی فضیلت و برتری کو ظاہر کرنے کے لئے زور زور سے باتیں کرنے والے۔ (ترمذی)

تواضع اختیار کرنے اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تاکید

۳۵۵۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع و خاکساری ظاہر کرو تا کہ کوئی کسی پر غرور گھمنڈ کا مظاہرہ نہ کرے، نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ (مسلم)

معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے

۳۵۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی عزت بڑھاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کی خاطر تواضع برتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ (مسلم)

بروباری اور نرم دلی کی فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

در گذر کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے الگ رہے۔

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الاعراف، آیت: ۱۹۹)

اور ارشاد ہے

اور انھیں معاف کرنا اور در گذر کرنا چاہئے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (النور، آیت: ۲۲)

اور ارشاد ہے

اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ کوئی برائی کرے تو اسے بھلے طریقہ سے نال دو، پھر ناگہاں وہ شخص جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو گا گویا کہ وہ مخلص دوست تھے اور یہ فضیلت تو بس ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ خوبی ان کے حصہ میں آتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

﴿وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

(حم السجدہ، آیت: ۳۳-۳۵)

اور ارشاد ہے

البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشوری، آیت: ۴۳)

دو کاموں میں رسول ﷺ آسان بات کو اختیار کرتے تھے

۳۵۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ کو جب دو کاموں میں اختیار کا موقع ہوتا جو گناہ نہ ہوتا تو آسان کام اختیار فرماتے اور اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ آپ ﷺ اس سے دور رہتے اور اپنے نفس کے لئے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیا۔ (بخاری و مسلم)

حضور کا بدلے سے اجتناب

۳۵۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو اپنے سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ غلام کو سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں اور آپ کو کبھی کسی سے تکلیف پہنچی تو تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ نہ لیتے۔ مگر ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں سے کوئی بے حرمتی کرتا تو آپ اللہ کے لئے بدلہ لیتے۔ (مسلم)

حلم و عالی ظرفی

۳۵۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپؐ موٹے کنارے کی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی آپؐ سے ملا اور چادر پکڑ کے بڑی زور سے کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ آپؐ کے کاندھے پر نشان پڑ گئے۔ بولا۔ اے محمد مجھے اس مال سے دیجئے جو آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپؐ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور پھر اس کو دینے کا حکم دیا۔ (بخاری و مسلم)

نرمی سے پیش آنا

۳۶۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ پکڑنے لگے۔ آپؐ نے فرمایا۔ چھوڑ دو اسکو اور اس کے پیشاب پر ایک بڑا ڈول پانی کا بہا دو۔ اور تم سختی کے لئے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اس لئے بھیجے گئے ہو کہ آسانی پیدا کرو۔ (بخاری)

خدا کی دو پسندیدہ خصلتیں

۳۶۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شیخ عبدالقیس سے فرمایا تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں اور وہ دونوں ہی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند ہیں ایک بردباری اور دوسری متانت۔
(مسلم)

پیغمبروں کا عمل

۳۶۲۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے تھے حضور ﷺ کے بیان کرنے کا منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے (ان پر اللہ کا درود و سلام ہو) فرمایا۔ ان کو ان کی قوم اس قدر مارتی تھی کہ خون آلود کر دیتی تھی اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ ان کو بخش دے یہ جانتے نہیں ہیں۔ (بخاری و مسلم)

نرمی کی حیثیت

۳۶۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی اور اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا۔
(مسلم)

نرمی زینت کا سامان ہے

۳۶۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اکوبرا کر دیتی ہے۔ (مسلم)

ذبیحہ کی تکلیف کا خیال

۳۶۵۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو سہولت سے اور جب تم ذبح کرو تو بھلائی کے ساتھ ذبح کرو۔ اپنی چھری تیز کر لو تاکہ ذبیحہ کو تکلیف نہ ہو۔ (مسلم)

پہلوان کی پہچان

۳۶۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔ (بخاری و مسلم)

زرمی میں بڑا خیر ہے

۳۶۷۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو زرمی کا حصہ دیا گیا (حقیقت میں) اس کو خیر کا حصہ دیا گیا، اور جو زرمی کے حصہ سے محروم ہو وہ (حقیقت میں) بھلائی کے حصہ سے محروم ہو۔ (ترمذی)

وہ شخص جس پر جہنم حرام ہے

۳۶۸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کیا میں تم (لوگوں) کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم (کی آگ) پر حرام کر دیا جائے گا یا جس پر جہنم (کی آگ) حرام ہے۔ ہر مانوس، بے آزار، نرم خو، نرم رو۔ (ترمذی)

صبر اور درگزر کرنے والے پر اللہ کا انعام

۳۶۹۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" کے بارے میں منقول ہے (کہ یہاں مراد) غصہ کے وقت صبر اور بدسلوکی کے وقت درگزر ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ (اور مامون) رکھے گا اور ان کے سامنے ان کے دشمنوں (اور مخالفوں) کو ٹھکادے گا۔ (بخاری)

امانت اور وعدہ کا پاس و لحاظ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اے ایمان والو! نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں کو) جانتے ہو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الانفال، آیت: ۲۷)

اور ارشاد ہے

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء، آیت: ۵۸)

اور ارشاد ہے

اور عہد کو پورا کرو عہد کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی۔

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الاسراء، آیت: ۳۴)

اور ارشاد ہے

اور جب خدا سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ (النحل، آیت: ۶۱)

اور ارشاد ہے

اے ایمان والو! اپنے اقراروں کو پورا کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدہ، آیت: ۱)

اور ارشاد ہے

نَهَلِمَ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ كَبِيرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ ﴿
(الصف، آیت: ۲-۳)

تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کرتے نہیں،
اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے کہ ایسی بات
کہو جو کرو نہیں۔

منافق کی تین نشانیاں

۳۷۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ منافق کی
تین نشانیاں ہیں۔ کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا
ہے اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔
(بخاری و مسلم)

چار خصلتیں صرف منافق کی ہیں

۳۷۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا۔ جس میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک
خصلت بھی ہوگی تو وہ بھی منافق ہی کی خصلت ہے، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب بات کہے
تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرنے اور جب لڑے تو گالی گلوچ
کرے۔
(بخاری و مسلم)

امانت کا اٹھ جانا

۳۷۲۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے دو باتیں
ارشاد فرمائیں۔ اس میں کی ایک میں نے دیکھ لی دوسری کا منتظر ہوں ہم سے آپ نے فرمایا امانت
لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، پھر قرآن اترا۔ انہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ پھر
آپ نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا، کہ آدمی ایک نیند لے گا اور امانت اس کے

دل سے اٹھالی جائے گی اور اس کا اثر نشان کی طرح باقی رہے گا۔ پھر ایک نیند سونے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گی اور اس کا اثر چھاپ کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تمہارے پیر پر چنگاری گر جائے اس سے چھالہ پڑ جائے۔ تم اس کو ابھرا ہوا دیکھو گے۔ حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے، پھر آپ نے ایک کنکری اپنے پیر مبارک پر لڑھکا کر دکھایا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو بکرؓ نے حضور اکرم ﷺ کے وعدے کو پورا کیا

۳۷۳۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا! اگر بحرین کا مال آجائے گا تو میں تم کو ایسے ایسے دوں گا، بحرین کا مال نہ آیا حتیٰ کہ حضور ﷺ کی وفات ہو گئی پھر جب بحرین کا مال آیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر لیا، جس سے حضور ﷺ کا وعدہ ہو، یا آپ پر قرض ہو، ہمارے پاس حاضر ہو، چنانچہ میں آیا اور میں نے اس طرح عرض کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے ہم سے اس طرح فرمایا تھا، تو حضرت ابو بکر نے لب بھر عطا کیا، میں نے اس کو شمار کیا، تو ۵۰۰ تھے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اس کا دو گنا لے لو۔ (بخاری و مسلم)

اصل دار و مدار نیت پر ہے

۳۷۴۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا اور اس کی نیت وعدہ وفا کرنے کی ہے اور پورا نہ کر سکا، اور وقت مقررہ پر بھی نہیں آیا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ (ابوداؤد و ترمذی)

وعدہ، وعدہ ہے چاہے معمولی چیز کا کیوں نہ ہو

۳۷۵۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ کو بلایا، اس حال میں کہ اللہ کے رسول ﷺ ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا، ادھر آؤ میں تم کو کچھ (چیز) دوں گی، حضور ﷺ نے میری والدہ سے فرمایا: تم اس کو کیا

دینا چاہتی ہو؟ میری والدہ نے فرمایا، میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی ہوں، تو حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم اس کو کچھ نہ دیتیں تو وہ جھوٹ میں شمار ہوتا۔
(ابوداؤد)

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد توڑنے کا وبال

۳۷۶۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے مہاجرین کی جماعت! پانچ چیزوں میں تم جب مبتلا ہو، (اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس سے دوچار ہو تو اس کا انجام اس طرح ہوگا)
جب بھی کسی قوم میں فحش کاری پھیل جاتی ہے اور علی الاعلان ہونے لگتی ہے، تو اس قوم میں طاعون کی وباء پھیل جاتی ہے، اور ایسی تکلیف دہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، جو ان کے اسلاف کے زمانہ میں نہ تھیں۔

اور جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی، پریشان حالی اور بادشاہ وقت کے ظلم و جور کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، تو بارشوں کا ہونا رک جاتا ہے، اگر جانور نہ ہوں تو بارش ہی نہ ہو۔ اور جب وہ اللہ اور رسول ﷺ کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کے افراد کو دشمن بنا کر ان پر مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں تک کی چیزیں لے لیتے ہیں۔
جب تک ان کے پیشوا کتاب اللہ سے فیصلہ نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے، اس میں من مانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو باہم شدید لڑائی جھگڑے میں ڈال دے گا۔ (ابن ماجہ)

صداقت و راستی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سچوں کے ساتھ رہو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة، آیت: ۱۱۹)

اور ارشاد ہے

اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کریں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے۔

﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا﴾ (محمد، آیت: ۲۱)

اور ارشاد ہے

وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے۔

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق، آیت: ۱۸)

اور ارشاد ہے

اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو پیشک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی ان سے پوچھ ہوگی۔

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الاسراء، آیت: ۳۶)

راستی نیکی کی رہبر ہے

۳۷۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔ تم پر سچائی لازم ہے، اور سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور نیکی

جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو ہی اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقیت کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچنا لازم ہے کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کی راہ پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
(بخاری و مسلم)

رسول اللہ ﷺ کی تعلیم

۳۷۸۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی لمبی حدیث میں ہر قل کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ ہر قل نے کہا تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں (یعنی نبی کریم) ابوسفیان کہتے ہیں، میں نے کہا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو اور ہم کو نماز، سچائی، صلہ رحمی، صدقہ اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔
(بخاری و مسلم)

سچائی میں برکت

۳۷۹۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ بیچنے اور خریدنے والے کو اس وقت تک بیع ختم کر دینے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ اس مجلس سے جدا نہ ہوں اور اگر وہ سچ بولے اور بیع کے عیب و ہنر کو بیان کر دیا تو ان دونوں کے لین دین میں برکت ہوگی۔ اور اگر جھوٹ بولے اور عیب کو چھپایا تو ان کے لین دین میں برکت ختم کر دی جائے گی۔
(بخاری و مسلم)

بدترین جھوٹ

۳۸۰۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی نے جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے متعلق کہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ (بخاری)

اعلیٰ خیانت

۳۸۱۔ حضرت ابن اسد حضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو جس میں وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔
(ابوداؤد)

مومن کے بارے میں سوال

۳۸۲۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ (موطا)

کچھ دینے کے لئے بلانا پھر نہ دینا جھوٹ ہے

۳۸۳۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن مجھ کو میری والدہ نے بلایا اس وقت حضور ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ والدہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں دوں۔ تو حضور ﷺ نے میری والدہ سے فرمایا۔ تم نے کیا دینے کے لئے بلایا تھا۔ والدہ نے فرمایا۔ میں نے ایک کھجور دینے کے لئے بلایا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر بلا کر کچھ نہ دیتیں تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا۔
(ابوداؤد)

تفریح طبع کے لئے بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے

۳۸۴۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص برباد ہو۔ جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بات کرتا ہے۔ اس کی بربادی ہو، اس کی بربادی ہو۔
(ابوداؤد ترمذی)

ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا جھوٹے ہونے کیلئے کافی ہے

۳۸۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا آدمی کو جھوٹا ہونے کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ (مسلم)

شک والی چیز کے ترک کرنے کا حکم

۳۸۶۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ کی یہ بات یاد ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ جس چیز میں تم کو شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں تم کو شک نہ ہو۔ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں بے اطمینانی ہے۔ (ترمذی)

شرم و حیا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿فَجَاءَ تَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ﴾ (القصص، آیت: ۲۵)

پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔

اور ارشاد ہے

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمُ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ (الاحزاب، آیت: ۵۳)

کیونکہ اس سے نبی (ﷺ) کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور حق بات کہنے سے اللہ شرم نہیں کرتا۔

حیا ایمان کی بات ہے

۳۸۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے پاس سے گذرے وہ اپنے بھائی سے شرم و حیا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ (یعنی اتنی شرم نہ کرنی چاہئے) آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، حیا ایمان میں سے ہے۔ (بخاری و مسلم)

حیا پوری طرح خیر ہے

۳۸۸۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ حیا سوائے خوبی کے کچھ نہیں لاتی۔ (بخاری و مسلم)

حیا ایمان کی ایک شاخ ہے

۳۸۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا درجہ ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کا ہے اور ادنیٰ درجہ راستہ کی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ (بخاری و مسلم)

حیا کا ثمرہ جنت ہے

۳۹۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا مقام جنت میں ہے۔ اور فحش گوئی بد عہدی ہے اور بد عہدی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ (ترمذی)

حیا، ہر چیز کو سنوار دیتی ہے

۳۹۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بے حیائی جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو عیب دار بناتی ہے اور حیا جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو سنوار دیتی ہے۔ (ابن ماجہ)

اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے

۳۹۲۔ حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہر دین کا کوئی شعار و وصف امتیاز ہوتا ہے اسلام کا امتیازی وصف ”شرم و حیا“ ہے۔ (موطا امام مالک)

نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ حیا والے تھے

۳۹۳۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ پر وہ نشیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اگر آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ اس کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

بے حیائی برے لوگوں کی علامت ہے

۳۹۴۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ لوگوں کو پہلی نبوت کی جو باتیں پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ (یعنی جو انسان بے شرم ہوتا ہے اس کو برے سے برے کام کرنے میں کوئی حجاب نہیں)۔ (بخاری)

ایمان کی دو شاخیں

۳۹۵۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شرم کرنا، اور باتیں کم کرنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، فحش گوئی اور زیادہ بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ (ترمذی)

حیا کی تشریح و تفسیر

۳۹۶۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ تم اللہ تعالیٰ سے شرم کرو۔ جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے نبی۔ یقیناً ہم شرم کرتے ہیں اور اس (نعمت حیا) پر اللہ تعالیٰ کے شاں خواں ہیں آپ نے فرمایا: یہ نہیں، بلکہ ایسی حیا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو کہ سر اور اس میں جو افکار و خیالات پیدا ہوتے ہیں سب کی نگہداشت رکھو۔ پیٹ اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی رکھو (۱)۔ اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کر لو۔ جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دست بردار ہو جائے گا اور اس چند روزہ زندگی کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لئے پسند و اختیار کرے گا۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا تو سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ (ترمذی)

(۱) یعنی برے خیالات و وساوس وغیرہ سے بچنا اور حرام و ناجائز غذا سے حفاظت اور شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت۔

مصیبت و آزمائش میں صبر و رضا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ (البقرة: ۱۵۵-۱۵۶)

اور ارشاد ہے

بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر، آیت: ۱۰)

اور ارشاد ہے

اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشوری، آیت: ۴۳)

آہ و بکا کی ممانعت

۳۹۷۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا بچہ جاکنی کے عالم میں ہے آپ تشریف لائیں آپ ﷺ نے انہیں

جواب سلام کہلویا اور فرمایا اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو کچھ اس نے دیا اس کے نزدیک ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر ہے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو، صاحبزادی نے دوبارہ قسم دلا کر کہلایا آپ ضرور تشریف لائیں آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر حضرات چلے بچہ حضور ﷺ کے پاس لایا گیا آپ نے بچہ کو گود میں بٹھالیا۔ بچہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا یہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں آپ کی آنکھوں میں یہ دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے۔

(بخاری و مسلم)

صبر مصیبت کے وقت ہی معتبر ہے

۳۹۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ایک عورت کے پاس سے گذر ہوا جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے آپ سے کہا دور ہو، تم پر میری جیسی مصیبت نہیں پڑی نہ تم اس کی تکلیف کو جانتے ہو، جب اس عورت کو بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ تھے تو وہ دربار نبوت میں حاضر ہوئی وہاں اس کو کوئی دربان و چہر اسی نظر نہ آیا اس نے عرض کیا اللہ کے نبی ﷺ میں نے پہچانا نہیں تھا (اس لئے شان اقدس میں گستاخی ہوئی) آپ نے فرمایا صبر تو وہی معتبر ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت کیا جائے۔

(بخاری و مسلم)

پریشانیاں گناہوں کا کفارہ ہیں

۳۹۹۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف و بیماری رنج و افسوس اور پریشانی و غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ کانا بھی چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

مومن اور فاجر کی مثال

۴۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کے اس نرم پودے کی سی ہے کہ ہوا جس رخ سے بھی آتی ہے اس کو موڑ دیتی ہے پھر جب ہوا رکتی ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے (۱) اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ وہ سخت سیدھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے (۲)۔ (بخاری)

نا بیبنا کے صبر کا بدلہ جنت ہے

۴۰۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دونوں محبوب چیزوں کے ذریعہ آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو ان دونوں کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ دونوں محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ (بخاری)

مومن کے ہر معاملہ میں خیر

۴۰۲۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی خوب ہے اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ مومن کے سوا کسی اور کو یہ بات حاصل نہیں۔ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے یہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے اس کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ (مسلم)

(۱) یعنی ایسے ہی مسلمان پر جو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہتا ہے، جب مصیبت اور آزمائش کا دور ختم ہو جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس وقت بھی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا رہتا ہے۔
(۲) یعنی منافق کی اطاعت و فرمانبرداری کا بھرم مصیبت اور آزمائش میں کھل جاتا اور نفاق ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔

دنیا میں سزا بندے کے ساتھ بھلائی ہے

۴۰۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے حق میں خیر چاہتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں (اس کے گناہ کی) سزا دے دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا فیصلہ چاہتا ہے تو اس کے گناہ پر اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر قیامت کے دن پوری پوری سزا دیتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو اس آزمائش میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جو اوویلا چھٹا ہوتا ہے اور ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ (ترمذی)

جان و مال کے نقصان پر صبر

۴۰۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ مومن مرد و عورت برابر جان و مال اور اولاد کی آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ (ترمذی)

لوگوں سے ملنے جلنے والا افضل ہے

۴۰۵۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتا ہے تو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کی منزل سے نہیں گذرتا ہے۔ (ابن ماجہ)

احسان شناسی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا
شکر کرو، اور ناشکری نہ کرو۔

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (البقرہ، آیت: ۱۵۲)

اور ارشاد ہے

اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور
اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾
(ابراہیم، آیت: ۷)

اور ارشاد ہے

ان کی دعا کا خاتمہ اس پر ہو گا کہ سب تعریف اللہ
کے لئے ہے، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔

﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ (یونس، آیت: ۱۰)

اور ارشاد ہے

اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا
کرو۔

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾
(الضحیٰ، آیت: ۱۱)

مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے

۳۰۶۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
بندۂ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ میں خیر ہی خیر ہے اگر اس کو خوشی اور راحت
و آرام ہوئے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اگر اس کو دکھ و

رنج پہونچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لئے سراسر خیر (اور موجب برکت) ہوتا ہے۔
(مسلم)

کھانے پینے پر اللہ کی حمد بیان کرنا

۴۰۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے کہ وہ کھائے تو اللہ کی تعریف کرے اور پئے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔
(مسلم)

شکر گزار ہونا

۴۰۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اتنی طویل نماز پڑھی کہ پاؤں مبارک میں ورم آگیا آپ ﷺ سے عرض کیا گیا آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
(ترمذی)

اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی

۴۰۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے اس کو پناہ دو اور جو اللہ کے واسطے سے مانگے اس کو عطا کرو اور جو اللہ کے نام سے امان طلب کرے اس کو امان دو۔ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کا بدلہ دو اگر بدلے کی استطاعت نہ ہو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تم کو یہ محسوس ہو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔
(ابوداؤد ونسائی)

حسن سلوک کا بدلہ تعریف اور شکر بھی ہے

۴۱۰۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات مہاجرین نے

حضور ﷺ سے عرض کیا کہ سارا اجر تو انصار لے گئے۔ ہم نے ان سے بہتر کسی مال والے کو خرچ کرنے والا نہیں دیکھا۔ کم مال والوں میں ان سے زیادہ دلداری اور ہمدردی کرنے والا نہیں دیکھا۔ انھوں نے ہم سب کے بار کو پورا پورا سنبھال لیا آپؐ نے فرمایا کیا تم لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے ہو؟ اور ان کے لئے دعا نہیں کرتے ہو؟ حضرات مہاجرین نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے اس عمل سے ان کے حسن سلوک کا بدلہ ہو گیا۔ (ابوداؤد ونسائی)

احسان کا بدلہ

۴۱۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس کو کوئی عطیہ دیا گیا پھر وہ مالدار ہو گیا تو چاہئے کہ وہ عطیہ دینے والے کو اس کا صلہ دے اگر وہ غریب ہی رہا تو اس دینے والے کی تعریف کرنی چاہئے (تو اس طرح سے) اس نے اس کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اس کو چھپایا خاموش رہا اس نے ناشکری کی۔ (ابوداؤد و الترمذی)

جزاک اللہ کی اہمیت

۴۱۲۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور اس نے اس حسن سلوک کرنے والے سے جزاک اللہ کہہ دیا اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ (ابوداؤد و ترمذی)

لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہئے

۴۱۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو۔ (ابوداؤد و ترمذی)

اعتماد و بھروسہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب (پروردگار) پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الانفال، آیت: ۲)

اور ارشاد ہے

پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَيْهِمْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران، آیت: ۱۵۹)

اور ارشاد ہے

اور تم اس زندہ خدا پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہ مرے گا اور اس کی تسبیح و حمد بیان کرتے رہو۔

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (الفرقان، آیت: ۵۸)

اور ارشاد ہے

اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق، آیت: ۳)

آپ کی توکل کی تعلیم

۳۱۴۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے ہم غار میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر ان میں کا ایک بھی اپنے قدم کے نیچے دیکھے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا آپ نے فرمایا۔ اے ابو بکر تم کو ایسے دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔
(بخاری مسلم)

بغیر حساب و کتاب کے جنت والے

۳۱۵۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے اور بد شکونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (بخاری)

توکل کی خصوصیت

۳۱۶۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کہا ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“ اور حضرت محمد ﷺ نے فرمایا جب لوگوں نے کہا تمہارے لئے لوگوں نے بڑا سامان اور بڑی تیاری کی ہے ان سے ڈرو تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“
(بخاری)

بھروسہ کی اہمیت اور اس کا مقام

۳۱۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں کچھ لوگ ایسے داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے (یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے والے جیسے چڑیاں کچھ جمع نہیں کرتیں) صبح کو وہ بھوکے پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتی ہیں۔
(مسلم)

۴۱۸۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرو تو تم کو وہ اس طرح سے رزق عطا کرے جیسے چیزوں کو عطا کرتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ اور بھرے پیٹ واپس ہوتی ہیں۔
(ترمذی)

اللہ والوں کی برکت

۴۱۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں ایک رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دوسرے کاروبار کرتے تھے کاروبار کرنے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی جو بارگاہ نبوی میں حاضر رہتے تھے شکایت کی کہ یہ کاروبار میں ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے تم کو اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو۔
(ترمذی)

تقویٰ و پرہیزگاری

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے
ڈرنا چاہئے اور نہ مرد مگر ایسے حال میں کہ تم
مسلمان ہو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
(آل عمران، آیت: ۱۰۲)

اور ارشاد ہے

پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَاطَعْتُمْ﴾

(التغابن، آیت: ۱۶)

اور ارشاد ہے

اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں شان
امتیازی عطا فرمائے گا اور تم سے گناہوں کو جھاڑ
دے گا اور تم کو بخش دے گا۔

﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا،
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾
(الانفال، آیت: ۲۹)

اور ارشاد ہے

اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات
کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے
جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
(الطلاق، آیت: ۲-۳)

اور ارشاد ہے

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾
بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے
نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے
(الحجرات، آیت: ۱۳)

دنیا کی دو آزمائشیں

۳۲۰۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا
میٹھی اور سبز ہے (یعنی دنیا بڑی پیاری اور پرکشش ہے) اللہ تم کو اس میں جانٹیں بنائے گا اور
دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی
ذات سے پیدا ہوا۔
(مسلم)

نیکی ہر حال میں سود مند ہے

۳۲۱۔ حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرو کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور لوگوں
سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔
(ترمذی)

جنت و جہنم میں لے جانے والی چیزیں

۳۲۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون
سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ آپ
سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پاس و
لحاظ اور اچھے اخلاق۔
(ترمذی)

مشتبہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے

۳۲۳۔ حضرت معاذ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا حلال کھلا اور واضح ہے اور حرام بھی کھلا اور صاف ہے ان دونوں کے درمیان کچھ

چیزیں مشتبہ ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے (کہ حلال ہے کہ حرام ہے) پس جو شخص (اپنے کو) ان مشتبہ چیزوں سے بچالے گا تو اس نے اپنی عزت و آبرو کو بچالیا اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا جیسے شاہی چراگاہ کے قریب چرانے والا خطرہ میں ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جانور اسکے اندر نہ داخل ہو جائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے سن لو اللہ کی چراگاہ حرام و حلال کے امکانات ہیں اور سن لو جسم کے اندر ایک لو تھڑا ہے جب تک وہ صحیح و درست رہے گا سارا جسم درست رہے گا اور وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا اور سن لو! وہ دل ہے۔ (بخاری و مسلم)

دل اچھے اور برے کو بتاتا ہے

۴۲۴۔ حضرت داہتہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا۔ جی۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کے متعلق) اپنے دل سے پوچھو جس کام سے عقل اور دل مطمئن ہوں۔ وہ بھلائی و نیکی ہے اور جس سے نفس منشرح نہ ہو اور دل میں کھٹکے وہ گناہ (برا) ہے چاہے لوگ فتویٰ دیں اور درست کہیں۔ (بخاری و مسلم)

متقی ہونے کیلئے بعض جائز کاموں کو چھوڑنا

۴۲۵۔ حضرت عطیہ بن عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے اس کو جس میں کوئی حرج نہیں ہے (صرف) اس ڈر سے کہ کہیں اس میں حرج ہو۔ (ترمذی)

شک سے اجتناب

۴۲۶۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی یہ بات یاد ہے جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اس چیز کی طرف (اس کو اختیار کرو) جس میں شک نہیں۔ (ترمذی)

نیک کاموں میں جلدی اور استقامت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب (آسمانی) ملی تھی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الحمد، آیت: ۱۶)

اور ارشاد ہے:

اور اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنا سوت محنت کے بعد کات کر توڑ ڈالے۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ (النحل، آیت: ۹۲)

اور ارشاد ہے:

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے۔

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر، آیت: ۹۹)

پسندیدہ عمل استقامت ہے

۴۲۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اعمال میں

اعتدال و استقامت اختیار کرو یہ سمجھ لو کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس پر مداومت کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہو۔

(بخاری)

رسول اللہ ﷺ کے معمولات

۴۲۸۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے عمل کے بارے میں پوچھا کہ عمل کے بارے میں آپ کا کیا معمول رہا کرتا تھا کیا آپ نے اپنے کچھ معمولات کو دنوں کے ساتھ خاص کر رکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں رسول اللہ ﷺ جو عمل کرتے تھے وہ مستقل کرتے تھے اور تم میں کون وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول کر لیتے تھے۔

(بخاری)

تہجد کی قضا

۴۲۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ درد و تکلیف یا کسی اور وجہ سے جب آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو آپ دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ (مسلم)

رات کا معمول چھوٹنے کا بدل

۴۳۰۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جس کا رات کا معمول چھوٹ جائے اور پھر وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پورا کر لے تو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ رات میں پڑھا ہو۔ (مسلم)

زیادہ ثواب حاصل کرنے کے شرائط

۴۳۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدق زیادہ موجب اجر ہے؟ آپ

نے ارشاد فرمایا۔ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست و توانا ہو (مال کی) لالچ ہو فقر کا اندیشہ ہو، مالداری کی چاہت ہو اور تم (اس کام کو) ٹالے نہ رہو۔ کہ جب تم کو موت آنے لگے تو تم کہو کہ فلاں کے لئے اتنا ہے اور فلاں کے لئے اتنا وہ تو (اب اس صورت میں) فلاں کا ہو ہی گیا۔
(ترمذی)

سات خطرناک چیزیں

۴۳۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ سات چیزوں سے پہلے اعمال خیر میں جلدی کرو۔ یا تو ایسے فقر سے دوچار ہونے والے ہو جو سب کچھ بھلا دے گا یا ایسی مالداری کے منتظر ہو جو تمہیں سرکشی میں ڈال دے گی یا ایسی بیماری آنے والی ہو جو نکما بنا دے گی یا عقل و خرد کھودینے والا بڑھاپا یا اچانک موت یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو بدترین شے ہے یا قیامت کے منتظر ہو قیامت تو بہت بیت ناک و ناقابل برداشت ہے۔ (ترمذی)

پچھیدہ حالات میں استقامت کا طریقہ

۴۳۳۔ حضرت ابو امیہ شعبانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ثعلبہ خنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اس آیت (علیکم انفسکم) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ تم نے ایک واقف باخبر سے اس کا مطلب معلوم کیا میں نے حضور ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک مشورے کرو اور برائی سے بچو جب دیکھو کہ لالچ کا دور دورہ ہے اور لوگ خواہشات نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ دنیا کو اولیت حاصل ہے ہر شخص اپنے افکار و خیالات کو سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے تو تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ عوام سے کنارہ کش رہو تمہیں سخت اور مشکل حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے جن میں دین پر صبر و استقامت اتنا ہی مشکل ہو گا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا ہے اس نازک زمانہ میں دین پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والے آدمیوں کا اجر ملے گا۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

عبادت و طاعت میں اعتدال

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾
(طہ، آیت: ۱-۲)
ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم
تکلیف اٹھاؤ۔

اور ارشاد ہے

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ﴾ (البقرہ، آیت: ۱۸۵)
اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں
چاہتا۔

اور ارشاد ہے

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ،
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾
(النساء، آیت: ۱۷۱)
اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور
اللہ کی شان میں سوائے سچی بات کے کچھ نہ کہو۔

اور ارشاد ہے

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
(البقرہ، آیت: ۲۸۶)
اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں
دیتا۔

حق والے کا حق ادا کرنا

۳۳۳۔ حضرت ابو حنیفہ (اور وہ وہب بن عبد اللہ ہیں) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
حضرت سلمانؓ اور حضرت ابو برداءؓ کے درمیان بھائی چارگی کر دی، ایک دن حضرت سلمانؓ

حضرت ابو درداء کے گھر تشریف لائے، ان کی بیوی کو دیکھا بہت معمولی کپڑوں میں تھیں کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا تمہارے بھائی کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں، اتنے میں حضرت ابو درداء آگئے، ان کے لئے کھانا تیار کیا گیا، حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان سے کہا میں روزے سے ہوں تم کھاؤ، حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے کھانا کھایا جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء کھڑے ہوئے، حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ وہ سو گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا ابھی سوؤ جب آخری رات ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو، پھر دونوں نے نماز پڑھی، حضرت سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، پس ہر ایک کا حق اس کے حق کے مطابق ادا کرو، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، اور اس کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ (بخاری)

صوم وصال کی ممانعت

۴۳۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا روزہ رکھوں گا اور رات کو عبادت کروں گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ہی نے یہ کہا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے نبی میں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے، روزہ بھی رکھو کھاؤ پیو بھی، سوؤ بھی، نوافل بھی پڑھو، مہینے میں تین دن روزے رکھو کہ ایک نیکی پر دس گنا ثواب ملتا ہے، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہو جائے گا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اچھا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے، اس سے بہتر روزہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں، اگر میں نے مہینے میں تین روزے رکھنے والی حضور ﷺ کی بات مان لی ہوتی تو میرے لئے میرے اہل و عیال مال و منال سے بھی بہتر ہوتی۔ (بخاری مسلم)

پابندی اور اعتدال اسلام کی دو پسندیدہ چیزیں

۴۳۶۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے عبادت کے متعلق پوچھنے کے لئے تین آدمی ازواج مطہرات کے گھر آئے، جب ازواج مطہرات نے آپ کے معمولات عبادت کو بتلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے ان لوگوں نے اس کو کم سمجھا، اور کہا، کہاں ہم لوگ؟ اور کہاں حضور ﷺ؟ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیئے گئے ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے صاحب نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ سے رہا کروں گا، اور روزہ کبھی نہ چھوڑوں گا، تیسرے صاحب نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، اتنے میں حضور ﷺ تشریف لائے، آپ ﷺ نے فرمایا، تم ہی لوگ یہ سب باتیں کر رہے تھے، سنو! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی رضا کا پاس دلچاظ رکھتا ہوں، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، اور کبھی نہیں رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، جو ہمارے طریقہ سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ (بخاری و مسلم)

جسم کو بیجا تکلیف دینے کی ممانعت

۴۳۷۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ حضور ﷺ تقریر فرما رہے تھے، کہ اسی اثناء میں ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو کھڑا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ ابواسرائیل ہیں، انہوں نے نذرمانی ہے کہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے نہ بیٹھیں گے نہ سائے میں رہیں گے، اور نہ کسی سے بات کریں گے ہمیشہ روزہ سے رہیں گے حضور ﷺ نے فرمایا ان سے کہو بات کریں سایہ میں رہیں بیٹھیں اور اپنا روزہ پورا کر لیں۔ (بخاری)

۴۳۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ حضور ﷺ گھر میں داخل

ہوئے، تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رستی بندھی ہوئی ہے، آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیسی رستی ہے، بتایا گیا کہ حضرت زینب کی رستی ہے، جب (عبادت میں) سستی محسوس کرتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، تم لوگوں کو چاہئے کہ نشاط ہو تو نماز پڑھو، اور سستی معلوم ہو تو سو جاؤ۔
(بخاری و مسلم)

جتنا بس میں ہو اتنا ہی کرنا چاہئے

۴۳۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ تشریف لائے، اور اس وقت ان کے (یعنی حضرت عائشہ) کے پاس ایک عورت موجود تھی، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ فلاں عورت ہے، جن کی نمازوں کا چرچا ہو رہا ہے، (یعنی یہ کہ وہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں)، آپ ﷺ نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، تم اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ (اجردینے سے) نہیں اکتائے گا، تم (عبادت سے) اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو وہی دینداری پسند ہے جس میں مداومت (پابندی) ہو۔
(بخاری و مسلم)

نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھے

۴۴۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے میں نیند آنے لگے تو وہ سو جائے، حتیٰ کہ نیند ختم ہو جائے، (تب نماز پڑھے) اگر تم میں سے کسی نے نیند کی حالت میں نماز پڑھی، تو کیا معلوم کہ استغفار کرنا شروع کرے، اور نیند کے سبب زبان سے بددعا نکل جائے۔
(بخاری و مسلم)

غلو سے پرہیز گاری

۴۴۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دین آسان ہے، جو شخص بھی دین میں سختی (غلو) کرے گا، دین اس پر غالب آجائے گا یعنی وہ ہمت ہار کے بیٹھ

رہے گا، اور اس کا غلو چل نہ سکے گا، تم ٹھیک راہ پر یا اس کے قریب چلتے رہو، ثواب کی خوشخبری (اچھے عمل پر) حاصل کرو، صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں (جو نشاط کے اوقات ہوتے ہیں) عبادت کرو۔ (بخاری)

حضور ﷺ کی عبادت

۴۴۲۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نمازیں حضور ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آپ کی نمازیں معتدل ہوا کرتی تھیں، (نہ بہت لمبی اور نہ مختصر) آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا۔ (مسلم)

نبی ﷺ کی اتباع محبوب عمل ہے

۴۴۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بعض ان اعمال (یعنی اعتدال) کو نہیں اپناتے جو میں کرتا ہوں، خدا شاہد ہے کہ میں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (بخاری)

نشاط کے وقت عبادت کرنی چاہئے

۴۴۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اونگھ آئے اور نماز پڑھ رہا ہو، تو چاہئے کہ وہ آرام کر لے، تاکہ نیند اس سے دور ہو جائے، بیشک تم میں سے جب کوئی نماز اس حال میں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اونگھ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ استغفار کر رہا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ (بخاری و مسلم)

قرآن کی فضیلت (۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کوئی شک نہیں
(کہ کلام خدا ہے، خدا سے) ڈرنے والوں کی رہنما
ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (سورہ بقرہ ۲)

اور ارشاد ہے :

اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کر کے نازل کیا ہے
تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ۔

﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى
مَكْثٍ﴾ (سورہ اسراء ۱۰۶)

اور ارشاد ہے :

اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو

﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (مزل آیت: ۴)

اور ارشاد ہے :

اور جب انھیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی
ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾
(سورہ انفال ۲)

(۱) قرآن مجید کی عظمت کیلئے بس اتنا کافی کہ وہ اللہ کا کلام ہے بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذات عالی کے ساتھ قائم ہے، یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے رسول امین کے ذریعہ وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بتایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکیں اب جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو تحت الثریٰ سے اٹھا کر افلاک و ثریا پر پہنچا دیتا ہے اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کو منہ کے بل گرادیتا ہے۔ قرآن مجید مٹی کو اکسیر بناتا ہے اور جو اس کی ناندہری کرتا ہے وہ اکسیر ہوتا ہے تو اس کو مٹی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بے لاگ قانون ہے، یہ دودھاری تلواری ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو قدری کی گئی تو قوموں کا کام تمام کر سکتی ہے۔

اور ارشاد ہے :

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے
کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ
خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (الحشر: ۲۱)

اور ارشاد ہے :

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا
ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مُّذَكِّرٍ﴾ (سورہ قمر: ۱۷)

قرآن کی فضیلت

قرآن مجید قیامت میں سفارش کرے گا

۵۴۲۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن پڑھا
کر۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ (مسلم)

انک انک کر پڑھنے والوں کیلئے دہرا اجر

۵۴۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص
قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انک انک کر مشکل سے
پڑھتا ہے اس کیلئے دو نالجر ہے۔ (۱) (بخاری و مسلم)

(۱) مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے قرآن کو اللہ کا کلام یقین کرتے ہوئے اس سے شغف رکھیں اور کثرت
تلاوت اور اہتمام کی وجہ سے قرآن پاک سے ان کو خاص مناسبت اور مہارت حاصل ہو جائے انکو انبیاء و رسل کی
یا حامل وحی فرشتوں کی معیت و رفاقت حاصل ہوگی اور جن ایمان والے بندوں کا حال یہ ہو کہ وہ قرآن کو رواں
نہ پڑھ سکتے ہوں بلکہ انک انک کر پڑھتے ہوں اور اس کے باوجود اجر و ثواب کی امید پر تلاوت کرتے ہوں ان کو
تلاوت کے اجر کے ساتھ مشقت کا بھی ثواب ملے گا اس لئے ان کو اپنی حالت کی وجہ سے شکستہ دل نہیں ہونا
چاہئے۔ (معارف الحدیث)

قرآن مجید پڑھنے والا مومن

۵۴۴۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج (۱) کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور سی ہے کہ اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ نہایت لذیذ بہت بیٹھا اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان (۲) سی ہے کہ خوشبو اچھی، ذائقہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حظلہ (۳) سی ہے، کہ ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی نہیں۔ (بخاری مسلم)

رشک کا موقع

۵۴۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، رشک صرف دو موقعوں پر مناسب ہے۔ رشک اس شخص پر آئے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کا علم عطا فرمایا، وہ اس پر دن رات عمل کرتا ہے، دوسرا موقع رشک کا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا، اور وہ اپنی دولت کو رات دن بہتر طریقہ پر خرچ کرتا ہے۔ (بخاری مسلم)

آنحضرت ﷺ کی قرآن مجید پڑھنے کی فرمائش

۵۴۶۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میں نے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے سنوں، تو میں نے سورہ نساء

(۱) ایک قسم کا خوشبودار بیٹھا لیموں ہوتا ہے۔

(۲) جو قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ (۳) اندرائن۔

شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچا ”فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بک علی ہولاء شہیداً“ فرمایا اب بس میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ (بخاری و مسلم)

درس و مذاکرہ

۵۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اس کا درس دیتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں تو ان پر سکینت اترتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ (مسلم)

سورہ فاتحہ کی فضیلت

۵۳۸۔ حضرت ابو سعید رافع بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا، کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی بڑی عظمت والی سورہ تعلیم کروں گا، پھر جب آپ نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تجھ کو قرآن مجید کی بڑی سورہ تعلیم کروں گا، آپ نے فرمایا، ”الحمد للہ رب العالمین“ یہی سبع الشانی (۱) اور قرآن عظیم ہے، جو مجھے دے گئی ہے۔ (بخاری)

آیت الکرسی

۵۳۹۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے ابوالمنذر! تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کونسی آیت بڑی عظیم الشان ہے،

(۱) سبع الشانی اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یہ ایسی عظیم الشان ایسی برکت والی سورہ ہے کہ اس درجہ کی سورت پہلی آسمانی کتاب میں نہیں نازل کی گئی اور قرآن مجید میں بھی اس درجہ کی کوئی سورت نہیں، یہ پورے قرآن کے مضامین پر حاوی ہے اس لئے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کئی نام آئے ہیں۔

میں نے عرض کیا، اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم (۱) ”یعنی ”آیۃ الکرسی“ حضور ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابوالمنذر! علم تجھ کو مبارک ہو۔ (مسلم)

جھوٹے شخص سے سچی بات معلوم ہوئی

۵۵۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ (یعنی صدقہ فطر) کی حفاظت میرے ذمہ کی، پس ایک شخص آیا اور غلہ بھر کے لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور کہا کہ میں تجھ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤنگا اور پوری حدیث ذکر کی پھر کہا میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا جب تم بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹو تو آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نگہبانی فرمائے گا اور صبح تک شیطان کا تمہارے پاس سے گزر نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا مگر بات سچ کہہ رہا ہے وہ شیطان ہے (۲)۔ (بخاری)

سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں

۵۵۱۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی اخیر کی دو آیتیں رات کو پڑھ لیا کرے، تو وہ اسکے لئے کافی ہو جائیں گی۔ (بخاری و مسلم)

جہاں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے

سورہ بقرہ

۵۵۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے گھروں

(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنی میں آیۃ الکرسی سب سے زیادہ باعظمت ہے اور یہ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید تنزیہ اور صفات کمال اور اس کی شان عالی کی عظمت رفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ اس میں منفرد اور بے مثال ہے (معارف الحدیث)۔

(۲) آیۃ الکرسی رات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور نگہبانی میں آجاتا ہے اور شیاطین کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

کو قبرستان نہ بناؤ، (۱) شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (مسلم)

تلاوت کرنے والوں کے لئے سفارش

۵۵۳۔ حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گی، رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں بیان کیں ہیں۔ جن کو میں ابھی تک نہیں بھولا، آپ نے فرمایا وہ دونوں سورتیں بادل کے دو ٹکڑے ہوں گے یا دو گہرے سائبان ہوں گے ان دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو گا یا وہ پرندوں کے دو جتھوں کے مانند ہوں گے جو ایک لائن سے اڑ رہے ہوں، یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کریں گی۔ (مسلم)

قیامت میں قرآن کی شفاعت و وکالت

۵۵۴۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، (خاص کر) زہراوین یعنی اس کی دو اہم نورانی سورتیں ”البقرہ“ اور ”آل عمران“ پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لئے اس طرح آئیں گی، جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یا سائبان ہیں، یا صف باندھے پرندوں کے پرے ہیں، یہ دونوں سورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی، (آپ نے فرمایا) پڑھا کرو، سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے، اور اس کو چھوڑنا، بڑی حسرت و ندامت کی بات ہے اور اہل بطلت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ (مسلم)

(۱) مطلب یہ کہ تم مردوں کی طرح نہ رہو جیسے وہ پڑے رہتے ہیں تم بھی پڑے رہو کہ نہ خدا کا ذکر کرو، نہ عبادت کرو، نہ قرآن پڑھو۔

سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں

۵۵۵۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی اول کی دس آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا (۱)، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخر کی دس آیتیں۔ (مسلم)

قرآن مجید پڑھنے سے سکینت کا نزول

۵۵۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، بس ایک دم اس کو ابر نے ڈھانپ لیا، اور وہ ابر جتنا نزدیک ہوتا تھا، گھوڑا اس کو دیکھ کر کودنے اور بھاگنے لگتا تھا، جب صبح ہوئی، تو اس آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، یہ سکینہ تھا (۲)، جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ (بخاری و مسلم)

سورہ فتح کی فضیلت

۵۵۷۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی جو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے پھر آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا کی تلاوت فرمائی۔ (بخاری)

(۱) اسکی توجیہ شارحین حدیث نے لکھی ہے کہ سورہ کہف کے ابتدائی حصہ میں جو تمہیدی مضمون ہے اور اسکے ساتھ اصحاب کہف کا جو قصہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ہر دجالی فتنہ کا پورا توڑ موجود ہے، جو بھی ان آیتوں کی اس خاصیت و برکت پر یقین کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرے گا اور اسکی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسکو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا ایک حدیث میں خاص طور سے جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی ترغیب ہے۔
(۲) سکینہ خاطر جمعی اور تسکین قلب کو کہتے ہیں۔

سورہ ملک

۵۵۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قرآن شریف میں ایک سورہ تیس آیت کی ہے، اس نے اپنے پڑھنے والوں کے لئے ایسی شفاعت کی کہ وہ بخش ہی دیا گیا، وہ ”تبارک الذی بیدہ الملک“ ہے۔ (ابوداؤد و ترمذی)

سورہ اخلاص

۵۵۹۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو بار بار ”قل هو اللہ احد“ پڑھتے ہوئے سنا، تو اس نے صبح کو رسول اللہ ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا، گویا وہ اس کو کم سمجھتا تھا اس لئے چھوٹی سمجھ کر بار بار پڑھتا تھا) آپ نے فرمایا، قسم اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (بخاری)

معوذتین ①

۵۶۰۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایات ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے ان آیتوں کو دیکھا ہے، جو اس رات اتری ہیں ان کے برابر کسی نے کبھی نہیں دیکھا، یہ ”قل أعوذ برب الفلق“ اور ”قل أعوذ برب الناس“ ہیں۔ (مسلم)

۵۶۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو معوذات پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے جب آپ کا ورد بہت بڑھ جاتا تو میں معوذات پڑھتی اور اس کی برکت کی امید میں آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرتی۔ (بخاری)

(۱) یہ دونوں سورتیں سنت کے مطابق پڑھ کر دم کی جائیں اور معمول بنالیا جائے، تو ہر طرح کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

دم کرنے کا صحیح طریقہ

۵۶۲۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آپ آرام فرمانے کے لئے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، (جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں) پھر ہاتھوں پر پھونکتے، اور ”قل هو اللہ احد“ اور ”قل اعوذ برب الفلق“ اور ”قل اعوذ برب الناس“ پڑھتے پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصہ سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر (جہاں تک آپ کے ہاتھ جاسکتے وہاں تک ہاتھوں کو پھیرتے) یہ آپ تین دفعہ کرتے۔ (بخاری)

خدا کا ذکر (۱)

سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا﴾ (سورہ اعراف ۲۰۵)

اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور دھیمی آواز سے صبح و شام اور نہ ہو غافلوں میں۔

﴿وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَرُدُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (نور، ۳۶-۳۷)

(وہ قدیل) ان گھروں میں (ہے) جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کئے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے (اور) ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں (یعنی ایسے) لوگ جن کو خدا سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالًا لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (سورہ الاحزاب ۴۱-۴۲)

(۱) اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا اس کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا، فلاح و کامیابی اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے۔ اور اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے صلہ میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ کئے جانے کی بشارت ہے۔

اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلے میں عظمت و فوقیت حاصل ہے اور اس کائنات میں وہ ہر چیز سے بالاتر اور بزرگ تر ہے، بلکہ اونچے سے اونچے اعمال صالحہ کا مقصد اور ان کی روح ذکر اللہ ہے، اس لئے ہدایت فرمائی گئی کہ ہر اچھے اور اعلیٰ کام کا اختتام اللہ کے ذکر پر ہونا چاہئے۔

اسی طرح قلوب کو نورانی بنانے اور اوصافِ ربیہ کو اوصافِ حمیدہ میں تبدیل کر دینے میں سب طاعات و عبادات سے زیادہ زود اثر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (ابن القیم)

اے ایمان والو! اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

(سورہ احزاب ۴۱-۴۲)

مومنو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (المنافقون: ۹)

بندے کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا معاملہ

۵۶۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ (۱) (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ کی یاد سے ترقی

۵۶۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مفرودوں سبقت لے گئے۔ صحابہؓ نے پوچھا مفرودوں کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ (مسلم)

(۱) مطلب یہ ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا یقین قائم کرے گا میرا معاملہ اس کے ساتھ بالکل اسی کے مطابق ہو گا اور جب بندہ مجھے خلوت میں اسی طرح یاد کرتا ہے کہ اس کے اور میرے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی تو میری عنایت بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخفی رہتی ہے اور وہ خاص الخاص مقام قرب رکھتے ہوئی بھی پہچانا نہیں جاتا اور مستور الحال رہتا ہے اور جب بندہ جلوت میں اور دوسروں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں جس کے بعد وہ بندہ فرشتوں میں محبوب و مقبول ہو جاتا ہے اس کے بعد دنیا میں بھی اس کو قبول عام اور محبوبیت عامہ حاصل ہو جاتی ہے۔ (معارف الحدیث)

۵۶۵۔ حضرت عبد اللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی شرعی احکامات تو ہم پر بہت سے لازم ہیں کوئی ایسی خاص الخاص بات بتادیں جس کی میں پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو۔ (ترمذی)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كِي فَضِيلَت

۵۶۶۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ (۱) (ترمذی)

سُبْحَانَ اللَّهِ كِي فَضِيلَت

۵۶۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں۔ اور میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور رحمان کو بہت پیارے ہیں وہ یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (بخاری و مسلم)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كِي فَضِيلَت

۵۶۸۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں! آپ نے فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ (بخاری و مسلم)

(۱) اہل دل اور عارفین کا اس پر اتفاق ہے کہ باطن کو پاک کرنے اور دل کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ موثر اسی کلمہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک کافر و مشرک بھی اس کو اخلاص اور معافی کے استحضار کے ساتھ کہے تو سارے مشرکانہ اور کافرانہ اعمال یک لخت ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی زندگی کے میدان میں قدم رکھا ہے حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کی تین خصوصیتیں بطور خاص ذکر فرمائی ہیں پہلی خاصیت یہ ہے شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ بندہ اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو سوخت کر دیتا ہے اور حصول معرفت اور قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

۵۶۶۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت فرمایا، جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دس مرتبہ پڑھا تو اس شخص کے برابر ہو گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چار شخصوں کو آزا کیا ہو۔ (بخاری و مسلم)

۵۷۰۔ حضرت جویریہ بنت جارثؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمات تین مرتبہ کہے، اگر ان کا موازنہ ان کلمات سے کیا جائے جو تم نے پورے دن میں کہے ہیں۔ تو ان چار کلمات کا وزن بڑھ جائے۔ سبحان الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدُ خَلْقِهِ وَرَضَى نَفْسَهُ وَزِنَةُ عَرْشِهِ وَمَدَادُ كَلِمَاتِهِ۔ (مسلم)

خوش نصیب مالدار

۵۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فقراء، مہاجرین رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور روزے میں بھی وہ ہمارے برابر ہیں، لیکن ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں۔ عمرہ کرتے ہیں۔ جہاد کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم پہلوں کے برابر ہو جاؤ اور پچھلوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور تم سے افضل کوئی نہ ہو گا جب تک وہی عمل نہ کرے گا۔ عرض کیا ہاں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد ۳۳، ۳۳ بار تسبیح، تحمید اور تکبیر کہہ لیا کرو (سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر)۔ (بخاری و مسلم)

سونے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت

۵۷۲۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا جب تم دونوں اپنے بستر پر جایا کرو (یعنی لیٹو) تو ۳۳ بار اللہ اکبر اور ۳۳ بار سبحان اللہ اور ۳۳ بار الحمد للہ کہہ لیا کرو۔

ایک روایت میں ہے سبحان اللہ ۳۴ بار اور ایک میں ہے کہ اللہ اکبر ۳۴ بار۔ (متفق علیہ)

اللہ تعالیٰ کے پیارے نام

۵۷۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں۔ ایک کم سو۔ جو شخص ان ناموں کو یاد رکھے (حفظ یاد ہوں یا گنے یا معنی کا دھیان رکھے) (۱) وہ جنت میں جائے گا۔

۱	هُوَ اللَّهُ	وہ اللہ
۲	الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ	ایسا ہے کوئی معبود حق نہیں سوا اسکے، بڑا مہربان
۳	الرَّحِيمُ	نہایت رحم والا
۴	الْمَلِكُ	بادشاہ
۵	الْقُدُّوسُ	سب عیبوں سے پاک
۶	السَّلَامُ	ہر آفت سے سالم
۷	الْمُؤْمِنُ	امن دینے والا
۸	الْمُهَيَّمِنُ	حفاظت کرنے والا
۹	الْعَزِيزُ	غلبہ والا
۱۰	الْجَبَّارُ	درستی کرنے والا یا سستی حکم کرنے والا
۱۱	الْمُتَكَبِّرُ	بڑائی کرنے والا
۱۲	الْخَالِقُ	پیدا کرنے والا
۱۳	الْبَارِئُ	ٹھیک بنانے والا
۱۴	الْمُصَوِّرُ	صورت بنانے والا
۱۵	الْعَقَّارُ	بڑا گناہ بخشنے والا
۱۶	الْقَهَّارُ	الوہاب
۱۷	الرَّزَّاقُ	الفتح
۱۸	الْفَتَّاحُ	
۱۹		


(۱) یہ نام برائے نام نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خوبیوں، قدرتوں، کمالات اور اوصاف کا مالک ہے اس کو اپنی مخلوق سے کیسا تعلق ہے وہ ان پر کتنا مہربان ہے۔ رب اور بندہ کے تعلق کو سمجھنے کے لئے بھی خدا کی صفات سے واقفیت ضروری ہے، اس لئے تعلقات ہمیشہ اوصاف کے تابع ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اور اس کے انعامات کا اتنی کثرت سے ذکر اور اعادہ و تکرار اور اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کا اصل راز یہی ہے، اسی لئے یہ فرمایا گیا جو ان ناموں کو اعتقاد میں حافظہ میں اور عمل میں جمع کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تو صرف قرآن مجید میں ہیں حدیثوں کے اندر صفاتی اسماء بعض علماء نے تلاش کئے تو تعداد دو سو تک پہنچ گئی۔

کھولنے والا یعنی دروازے رحمت اور علم کے	رزق دینے والا	بلا عوض دینے والا	غالب مخلوقات پر
الْخَافِضُ ۲۳	الْبَاسِطُ ۲۲	الْقَابِضُ ۲۱	الْعَلِيمُ ۲۰
پست کرنے والا	پھیلانے والا	سمیٹنے والا	بہت علم والا
السَّمِيعُ ۲۷	الْمُذِلُّ ۲۶	الْمُعِزُّ ۲۵	الرَّافِعُ ۲۴
بہت سننے والا	زلت دینے والا	عزت دینے والا	بلند کرنے والا
اللطيف ۳۱	العَدْلُ ۳۰	الْحَكْمُ ۲۹	الْبَصِيرُ ۲۸
پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا یا مہربان	بہت انصاف کرنے والا	فیصلہ کرنے والا	بہت دیکھنے والا
الْغَفُورُ ۳۵	الْعَظِيمُ ۳۴	الْحَلِيمُ ۳۳	الْخَبِيرُ ۳۲
بہت گناہ بخشنے والا	بہت بڑی شان والا	بردار	خبر رکھنے والا
الْحَفِيفُ ۳۹	الْكَبِيرُ ۳۸	الْعَلِيُّ ۳۷	الشَّكُورُ ۳۶
بہت حفاظت کرنے والا	سب سے بڑا	سب سے برتر	قدر وال
الْكَرِيمُ ۴۳	الْجَلِيلُ ۴۲	الْحَسِيبُ ۴۱	الْمُقِيتُ ۴۰
کرم والا	بزرگی والا	کافی حساب لینے والا	قوت والا یا روزی پہنچانے والا
الْحَكِيمُ ۴۷	الْوَاسِعُ ۴۶	الْمُجِيبُ ۴۵	الرَّقِيبُ ۴۴
حکمت والا	گنجائش والا	دعا قبول کرنے والا	نگہبان
الشَّهِيدُ ۵۱	الْبَاعِثُ ۵۰	الْمَجِيدُ ۴۹	الْوَدُودُ ۴۸
حاضر	پیغمبر بھیجے و مردے کو زندہ کرنے والا	بزرگی والا	محبت والا

الْحَقُّ ٥٢	الْقَوِيُّ ٥٤	الْوَكِيلُ ٥٣	السَّجَّادُ ٥٥
سچا	زور آور	کار ساز	مضبوط
الْوَلِيُّ ٥٦	الْمُحْصِي ٥٨	الْحَمِيدُ ٥٧	الْمُبْدِي ٥٩
مدد کرنے والا یا نصرت والا	احاطہ کرنے والا	تعریف والا	ابتداء پیدا کرنے والا
الْمُعِيدُ ٦٠	الْمُمِيتُ ٦٢	الْمُخْبِي ٦١	الْحَيُّ ٦٣
دوبارہ پیدا کرنے والا	موت دینے والا	زندہ کرنے والا	زندہ
الْقَيُّومُ ٦٤	الْمَاجِدُ ٦٦	الْوَاجِدُ ٦٥	الْوَاحِدُ ٦٧
قائم رہنے والا یا قائم رکھنے والا	بزرگی والا	تواگتری والا	یکتا صفات والا
الْأَحَدُ ٦٨	الْقَادِرُ ٧٠	الضَّمَدُ ٦٩	الْمُقْتَدِرُ ٧١
یگانہ ذات والا	قدرت والا	سب کا مقصود	قدرت کا ظاہر کرنے والا
الْمُقَدَّمُ ٧٢	الْأَوَّلُ ٧٤	الْمُؤَخَّرُ ٧٣	الْآخِرُ ٧٥
بڑھانے والا	سب سے پہلا	ہٹانے والا	سب سے پچھلا
الظَّاهِرُ ٧٦	الْوَالِي ٧٨	الْبَاطِنُ ٧٧	الْمُتَعَالَى ٧٩
کھلا ہوا اپنی صفات سے	مالک	چھپا ہوا اپنی ذات سے	بہت برتر
الْبَرُّ ٨٠	الْمُنْتَقِمُ ٨٢	الْتَّوَابُ ٨١	الْعَفْوُ ٨٣
محسن	بدلہ لینے والا	رحمت سے متوجہ ہونے والا	بہت معاف کرنے والا
الرَّؤْفُ ٨٤	الْمُقْسِطُ ٨٦	مَالِكُ الْمَلِكِ ٨٥ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	الْجَامِعُ ٨٧
بہت مہربان	انصاف کرنے والا	جلال والا اور اکرام والا	اکٹھا کرنے والا

الْمَغْنَى ۸۸	الْمَغْنَى ۸۹	الْمَغْنَى ۸۹	الْمَغْنَى ۸۸
خود غنی	دوسروں کو غنی کرنے والا	دوسروں کو غنی کرنے والا	خود غنی
النَّفْعُ ۹۲	النُّورُ ۹۳	النُّورُ ۹۳	النَّفْعُ ۹۲
نفع دینے والا	ظہور والا	ظہور والا	نفع دینے والا
الْبَاقِي ۹۶	الرَّشِيدُ ۹۸	الرَّشِيدُ ۹۸	الْبَاقِي ۹۶
سب سے پیچھے رہنے والا	مصلحت بتلانے والا	مصلحت بتلانے والا	سب سے پیچھے رہنے والا
الضَّارُّ ۹۱	الْمَانِعُ ۹۰	الْمَانِعُ ۹۰	الضَّارُّ ۹۱
ضرر پیدا کرنے والا	نہ دینے والا کسی مصلحت سے	نہ دینے والا کسی مصلحت سے	ضرر پیدا کرنے والا
الْبَدِيعُ ۹۵	الْهَادِي ۹۴	الْهَادِي ۹۴	الْبَدِيعُ ۹۵
ایجاد کرنے والا یا بے مثل	ہدایت کرنے والا	ہدایت کرنے والا	ایجاد کرنے والا یا بے مثل
الصَّبُورُ ۹۹	الْوَارِثُ ۹۷	الْوَارِثُ ۹۷	الصَّبُورُ ۹۹
تحمل والا	سب کا وارث	سب کا وارث	تحمل والا



دعاء (۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اور جب تم سے میرے بندے میری بابت سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾
(سورہ بقرہ ۱۸۶)

اور ارشاد ہے :

اور ہمارے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے، ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾
(سورہ مومن ۶۰)

(۱) بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے اور سیدنا حضرت محمد ﷺ اس مقام کے امام یعنی اس وصف خاص میں سب پر فائق ہیں اور دعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بندے کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے آپ نے دعا کو دین کا ایک مستقل شعبہ بنا دیا بلکہ بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبوت محمدی نے دعا کے شعبہ کا جس طرح احیاء و تجدید اور اس ترقی و تکمیل فرمائی ہے وہ اس سے پہلے دیکھنے میں آئی نہ اس کے بعد۔

محمد ﷺ نے محروم و محبوب انسانیت کو دوبارہ دعا کی دولت عطا فرمائی اور بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا، آپ نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا دعا میں انسانوں کی طرف سے انسانی ضروریات کی بھی ایسی مکمل نیابت کی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر زبان و مکان میں ان دعاؤں میں اپنے دل کی ترجمانی اپنے حالات کی نمائندگی اور اپنے اطمینان کا سامان ملے گا اور بہت سی وہ ضرورتیں ملیں گی، جن کی طرف آسانی سے ہر انسان کے ذہن کا جانا مشکل ہے۔

تفصیل دعا کی بڑی اور مفصل کتابوں میں دیکھنا چاہئے۔

اور ارشاد ہے :

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ (سورہ نمل ۶۲)

بھلا کون بے قرار کی فریاد کو پہنچتا ہے جبکہ اس کو
وہ پکارتا ہے، اور وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔

دعا عبادت ہے

۵۷۴۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا
عبادت (۱) ہے۔ (ترمذی)

۵۷۵۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تقدیر
(یعنی آنے والی آفات بلیات) کے فیصلہ کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ (ترمذی)

دوسروں کے لئے دعا اپنے لئے دعا ہے

۵۷۶۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
سنا ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت (یعنی اس کے پیچھے) میں اس کے لئے دعا
کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے، کہ تجھ کو بھی یہی بھلائی ملے، جو تو اس کے لئے مانگ رہا ہے۔ (مسلم)

دعا ضرور قبول ہوتی ہے

۶۷۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تمہاری دعائیں
ضرور قبول ہوتی ہیں اگر جلدی نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی (۲)۔ (بخاری و مسلم)

(۱) کوئی یہ خیال نہ کرے اگر دعا قبول ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو شش کا پھل مل گیا اگر قبول نہ ہوئی تو
وہ کو شش رائیگاں گئیں بلکہ دعا بذات خود ایک اہم عبادت ہے، جس کا ثواب آخرت میں ملے گا محض وسیلہ اور
کوشش نہیں۔

(۲) بندہ جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا استحقاق کھو دیتا ہے اس لئے چاہئے کہ ہمیشہ مانگتا رہے
یقین کر کے کہ ارحم الراحمین کی رحمت دیر و سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی ورنہ آخرت میں دعا کرنے
کا ثواب تو ملے گا ہی۔

قبولیت دعا کا وقت

۵۷۸۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے لوگوں نے عرض کیا، اے حضرت! کون سے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا پچھلی رات کو اور ہر فرض نماز کے بعد۔ (ترمذی)

جامع دعائیں

۵۷۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اس کے ماسوا چھوڑ دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

۵۸۰۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اکثر یہی دعا ہوتی تھی، ”اللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ (بخاری و مسلم)

مصیبت کے وقت کی دعا

۵۸۱۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ رنج و مصیبت کے وقت یہ کلمات ادا فرماتے تھے، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ“ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. اللہ بزرگ بر دبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑے عرش کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور عزت والے عرش کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

دعاء واستعاذہ

۵۸۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، ”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اے اللہ میں عاجز ہونے
سستی کرنے، اور بزدلی، اور بڑھاپے، اور بخل سے، اور قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے
فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ (مسلم)

۵۸۳۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے
تھے، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ
الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ اتِّ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ
لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اے میرے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، کم ہمتی سے اور سستی اور کاہلی اور بزدلی
سے، اور بخیلی اور کجوسی سے اور انتہائی درجہ کے بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے اے میرے
اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اور اس کا تزکیہ فرما، اور اس کو مصفی بنا دے تو ہی سب سے اچھا
تزکیہ فرمانے والا ہے تو ہی اس کا والی اور مولیٰ ہے، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم
سے جو نفع مند نہ ہو، اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جس کو سیری نہ ہو،
اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ (مسلم)

۵۸۴۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا
کرتے تھے، "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ
خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا
أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" اے اللہ میں نے تیری فرمانبرداری کی،
اور تجھ پر ایمان لایا، اور تیری ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اور تیری طرف رجوع ہوا، اور تیری مدد کے
ساتھ میں مخالفوں سے جھگڑا، اور تیری طرف سے اپنا مقدمہ پیش کیا، تو میرے اگلے پچھلے ظاہر
اور پوشیدہ گناہوں کو بخش دے تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، (یعنی اپنی
رحمت) اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ قوت اور نہ طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ (بخاری و مسلم)

دین و دنیا کی بھلائی

۵۸۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کرتے تھے،
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي، الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي، لِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ
الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ،

اے اللہ میرا دین درست کر کہ وہ میرے بچاؤ کا سامان ہے، اور میری دنیا درست کر کہ
اس میں میری زندگی ہے، اور میری آخرت درست کر کہ وہی میرا ٹھکانہ ہے، اور میری زندگی
زیادہ کر، ہر بھلائی کے ساتھ اور موت کو میرے لئے ہر برائی سے آرام کا سبب کر۔ (مسلم)

بہتر دعا

۵۸۶۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت طریقوں
سے دعائیں کیں، لیکن ہمیں اس میں سے کچھ حصہ یاد نہیں رہا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ!
آپ نے بہت دعائیں کیں، مگر ہم کو کچھ بھی یاد نہ رہا، آپ نے فرمایا، میں تم کو ایسی دعا بتا دوں،
جو ان سب دعاؤں کی جامع ہو، پھر آپ نے فرمایا: کہو! اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ
مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ
الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،

اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نبی محمد ﷺ نے تجھ
سے مانگی ہیں، اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی ﷺ نے پناہ مانگی، اور تجھ
ہی سے اعانت طلب کی جاتی ہے، اور تو ہی مراد کو پہنچانے والا ہے، اور نہ قوت ہے، نہ طاقت مگر
اللہ کی مدد سے۔ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ

۵۸۷۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، (تو) ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

یہ کلمات سن کر آپ نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس نام کا واسطہ دے کر مانگا، کہ اس کا واسطہ دے کر مانگتے پر وہ دیتا ہے، جب اس نام کے واسطہ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

مصائب اور مشکل وقت کی دعا

۵۸۸۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ذوالنون (اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام) جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، تو اس وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی، ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ میرے مولا! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک اور مقدس ہے، میں ہی ظالم اور پاپی ہوں، جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملہ اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی فرمائے گا۔ (ترمذی)

اولاد کے حق میں بددعا کی ممانعت

۵۸۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم اپنی جانوں، مالوں، اور اولاد کو بددعا مت دو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت ہو، تو تمہاری بددعا

قبول ہو جائے۔ (۱)

(مسلم)

خاص سونے کے وقت کی دعائیں

۵۹۰۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو آرام فرمانے کے لئے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور پھر اللہ کے حضور یہ عرض کرتے، اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَا، اے اللہ تیرے ہی نام پر مجھ کو جینا ہے اور تیرے ہی نام پر مجھ کو مرنا ہے، اور جب سو کر اٹھتے تو پڑھتے، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ، حمد و شکر اس اللہ کے لئے ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد ہم کو جلایا، اور بالآخر ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ (بخاری)

صبح کے وقت کی دعا

۵۹۱۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ یہ کلمات ادا کرے اللّٰهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے حفاظت فرما تو جو لڑکایا لڑکی ہوگی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (بخاری مسلم)

صبح کے وقت کی دعا

۵۹۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح ہوتی تھی تو یہ ارشاد فرماتے تھے، اللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، اے اللہ تیری قدرت سے ہم نے صبح کی، اور تیری ہی قدرت سے ہم نے شام گزاری، اور تیری ہی قدرت سے ہم زندہ رہے، اور تیری ہی قدرت سے ہم مرتے ہیں۔ (بخاری)

(۱) بعض اوقات ایسی قبولیت دعا کے ہوتے ہیں کہ جو دعایا بددعا منہ سے نکلتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اس لئے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اپنی ہی زبان سے اپنا اور اپنے گھروالوں کا نقصان نہ کریں۔

استنجا کے وقت کی دعا

۵۹۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو کہتے اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے۔ (بخاری)

کھانے سے فراغت کے بعد کی دعا

۵۹۴۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب دسترخوان اٹھاتے تو فرماتے، الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُكْفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنِيٍّ عَنْهُ وَبِنَاءِ سَبِّ تَعْرِيفِىْ اللّٰهِ كَوْزِيَا هِيْنَ اِيْسَى تَعْرِيفِىْ جَسْ كِيْ كُوْنَى حِدْ نَيْسَى، اسی تعریف جو پاک ہے ریاء وغیرہ سے، جو مبارک ہے، اسی حمد جو چھوڑی نہیں جاسکتی اور نہ پوری ہو سکتی ہے اور نہ اس سے استغنا کیا جاسکتا ہے۔ (بخاری)

کپڑا پہننے کی دعا

۵۹۵۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نیا کپڑا پہننے تو اس کا نام لے کر فرماتے تھے خواہ وہ عمامہ ہو یا قمیص یا چادر، اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اور تجھ سے میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی جس کے لئے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

ہر بری چیز سے حفاظت کی دعا

۵۹۶۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دستور تھا جب گھر سے باہر نکلتے تو کہتے، بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نُظَلِّمَ اَوْ يَظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اللہ ہی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرے قدم ہیکس اور ہم غلط راہ پر پڑیں، یا ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں، یا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، یا ہم کسی کے ساتھ جہالت کریں یا کوئی ہمارے ساتھ جہالت کرے۔ (ترمذی)

سفر کی دعا

۵۹۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دستور تھا، جب آپ سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو پہلے تین دفعہ اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد کہتے
 مُسَبِّحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا، وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَاجِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَقَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ پاك و مقدس ہے وہ ذات جس نے ہماری سواری کے لئے اپنی مخلوق کو مسخر کر دیا اور خود ہمیں اس کی طاقت نہ تھی کہ اپنی ذاتی تدبیر و طاقت سے ایسا کر لیتے، اور ہم بلا آخر اپنے مالک کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ ہم استدعا کرتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیز گاری کی اور ان اعمال کی جو تیری رضا کا باعث ہوں، اے اللہ اس سفر کو ہم پر آسان کر دے اور اس کی طوالت کو اپنی قدرت سے مختصر کر دے، اے اللہ بس تو ہی ہمارا رفیق اور ساتھی ہے اس

سفر میں اور ہمارے پیچھے تو ہی ہمارے اہل و عیال، مال و جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا ہے، اسے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور زحمت سے اور اس بات سے کہ اس سفر میں کوئی رنجیدہ بات دیکھوں، اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر اہل و عیال، مال و جائیداد میں کوئی بری بات پاؤں۔

اور جب آپ سفر سے واپس ہوتے تب بھی یہ دعا کرتے اور اخیر میں ان کلمات کا اضافہ کرتے، اَبِیُّوْنَ نَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ہم واپس لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی حمد و ستائش کرنے والے ہیں۔ (صحیح مسلم)

سفر پر جانے والے کو وصیت اور اس کو دعا

۵۹۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی

خدمت میں عرض کیا، کہ میرا ارادہ سفر کا ہے، حضور مجھے کچھ وصیت اور نصیحت فرمائیں؟

آپ نے فرمایا، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کی نازا نسکی سے بچنے کی فکر کو لازم پکڑ لو، اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اثنائے سفر میں جب کسی بلندی پر پہنچنا ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جب وہ آدمی روانہ ہو گیا تو آپ نے دعائی، اَللّٰهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ، اے اللہ اس کیلئے طول مسافت کو سمیٹ کر مختصر کر دے، اور سفر کو اس کیلئے آسان کر دے۔ (ترمذی)

مسافر کو رخصت کرنے کا طریقہ

۵۹۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص سفر کرنا چاہتا تو

اس سے فرماتے کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، میں تم کو اس طرح رخصت کروں جس طرح رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کو رخصت فرمایا کرتے تھے، پھر فرماتے اَسْتُوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ، اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارا دین، تمہاری امانت، اور تمہارے انجام کو۔ (ترمذی)

مصیبت و آفت رسیدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا

۶۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کو پریشانی میں دیکھے پھر یہ کہے، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اللہ کی حمد ہے، جس نے تمہاری مصیبت سے مجھے عافیت اور مخلوقات میں بہتوں پر مجھے فضیلت دی، تو وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا۔ (ترمذی)

آندھی کے وقت کی دعا

۶۰۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آندھی آتی تھی، تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ، اے اللہ تجھ سے اس کی بھلائی اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اے اللہ تجھ سے اس کی برائی اور جو اس میں ہے اس کی برائی اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ (ترمذی)

بارش کے وقت کی دعا

۶۰۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بارش ہوتی دیکھتے تو اللہ سے دعا فرماتے، اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اے اللہ بھرپور اور نفع بخش بارش ہو (بخاری مسلم)

نیا چاند دیکھنے کے وقت کی دعا

۶۰۳۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی مہینہ کا چاند دیکھتے، تو اس طرح دعا کرتے، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، اے اللہ یہ چاند ہمارے لئے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کا چاند ہو، اے چاند! تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ (ترمذی)

عیادت کے وقت کی دعا

۶۰۴۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعض گھر والوں کی عیادت فرماتے، داہنا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَاسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاؤَنَا لَا يَغَادِرُ سَقَمًا اِلَّا تَكْلِيْفٌ دُوْرٌ فَرَمَا، اے لوگوں کے پالنے والے اس کو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے، کہ کوئی شکایت باقی نہ رہے۔ (بخاری مسلم)

جھاڑ پھونک کا مسنون طریقہ

۶۰۵۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان کلمات سے نہ جھاڑوں جس کو پڑھ کر رسول اللہ ﷺ جھاڑا کرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں، "اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مَذْهَبَ الْبَلْغِسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاؤَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءٌ لَا يَغَادِرُ سَقَمًا اِلَّا تَكْلِيْفٌ دُوْرٌ فَرَمَا" اور تکلیف دور کرنے والے اس کو شفا دے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی شکایت باقی نہ رہے۔ (بخاری)

۶۰۶۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ کچھ بیمار ہوئے تو جبریل امین آئے، اور کہا اے محمد (ﷺ) تم کو تکلیف ہو گئی ہے۔ تو جبریل امین نے یہ دعا پڑھ کر جھاڑا، "بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ، اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ" میں اللہ کے نام سے تم کو جھاڑتا اور دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں ایذا پہنچائے اور ہر نفس اور حاسد کے شر سے اللہ تم کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے تمہیں جھاڑتا اور پھونکتا ہوں۔ (مسلم)

موذی جانور کے کاٹنے کی دعا

۶۰۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول (ﷺ) مجھے گذشتہ رات بچھو نے ڈنک مار دیا، بہت تکلیف ہوئی آپ نے فرمایا، اگر تم نے شام کے وقت یہ الفاظ کہہ لئے ہوتے، ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَكْرٍ مَا خَلَقَ“ (اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے شر سے بچنے کے لئے پناہ چاہتا ہوں اللہ کے بے نقص کلمات کے ذریعہ) تو تم کو نقصان نہ ہوتا۔ (مسلم)

ہر چیز سے حفاظت کے لئے دعا

۶۰۸۔ حضرت عبد اللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا شام کو اور صبح کو (یعنی دن شروع ہونے اور رات شروع ہونے پر) تم ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور ”معوذتین“ تین بار پڑھ لیا کرو، ہر چیز کے لئے تمہارے لئے یہ کافی ہوں گی۔ (ابوداؤد ترمذی)

۶۰۹۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر دن صبح اور ہر رات کی شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کو مضرت نہیں پہنچے گی، اور کسی حادثہ سے دوچار نہیں ہوگا، ”بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (ترمذی)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا

۶۱۰۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک مکاتب ان کے پاس آیا، اور اس نے کہا میں زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد کر دیجئے، آپ نے فرمایا، میں تم کو وہ دعائیہ کلمات بتا دوں، جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے تعلیم فرمائے تھے، اگر تم پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، تو اس دعا کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے وہ ادا

ہو جائے گا، اللّٰهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اَللّٰهُمَّ
 حلال طریقہ سے اتنی روزی دے جو میرے لئے کافی ہو، اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے
 فضل و کرم سے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔ (ترمذی)

۶۱۱۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو امامہ
 رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ
 تمہارے غم کو دور کر دے، اور تمہارا قرض ادا کر دے، ابو امامہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے
 نبی بتادیں، آپ ﷺ نے فرمایا تم صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَلْهُمِّ
 وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ الْجُبْنِ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّیْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ، اے
 اللہ میں فکر و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عاجزی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بخل اور بزوری
 سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قرض کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو امامہ کہتے
 ہیں میں نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا غم دور کر دیا، اور قرض ادا کر دیا۔ (ابوداؤد)

استغفار کی برکت

۶۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالتا ہے، اور ہر غم کو دور کرتا ہے،
 اور روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اسکو ہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تکلیف کے وقت حضور ﷺ کا طریقہ کار

۶۱۳۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کوئی آپ سے کسی تکلیف
 کی شکایت کرتا، یا اس کو پھوڑا اور زخم ہوتا، تو رسول اللہ ﷺ اپنی انگلی سے اس طرح فرماتے اور
 سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی پھر اٹھائی، بِسْمِ اللّٰهِ تَرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا

لِيَشْفِي سَقِيمًا بِإِذْنِ رَبِّنَا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے بعض لوگوں کے لعاب دہن کے ساتھ بحکم خداوندی ہمارے مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ (مسلم)

درد کے وقت کی دعا

۶۱۴۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ انھوں نے اسلام لانے کے بعد سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی، نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا، تمہارے جسم میں جہاں درد ہوتا ہے، وہاں اپنا ہاتھ رکھو، اور تین بار بسم اللہ کہو، اور سات بار اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجْدُ وَاُحَاذِرُ۔ (مسلم)

۶۱۵۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک اندھار رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا، کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ دعا فرمائیں۔ کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، آپ نے فرمایا، کیا تمہارے لئے دعا کروں، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میری بینائی کا چلا جانا میرے لئے مصیبت بن گیا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو، اللھم انی استلک واتوجه الیک، بنییک محمد ﷺ نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه الی ربی بک ان یکشف لی عن بصری، اللھم شفعه فی وشفعنی فی نفسی، (اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد ﷺ) کے واسطے سے جو نبی رحمت ہیں، اے محمد ﷺ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے واسطے سے اے اللہ تو ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، اور میری سفارش میرے نفس کے بارے میں قبول فرما) وہ لوٹا تو بینائی واپس آچکی تھی۔ (ترمذی و نسائی)

استخارہ کی دعا اور اس کا طریقہ

۶۱۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے، تو دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے، اللّٰهُمَّ اِنِّى
 اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا
 اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ خَيْرٌ لِّى
 فِى دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي، اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِي وَاَجَلِهِ فَاَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ
 بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِّى فِى دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي، اَوْ
 قَالَ عَاجِلِ اَمْرِي وَاَجَلِهِ فَاَصْرِفْهُ عَنِّي وَاَصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاَقْدِرْ لِي، الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ
 رَضِيْنِي بِهٖ "اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ خیر چاہتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعہ،
 اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بڑی مہربانی سے، اس لئے کہ تو قدرت رکھتا ہے، اور مجھے
 قدرت نہیں، تو جانتا ہے، میں جانتا نہیں، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں دین
 و دنیا اور میرے انجام دیر سویر کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دے، اور اس
 کو میرے لئے آسان کر دے، پھر مبارک فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دین و
 دنیا اور میرے انجام دیر سویر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس
 سے باز رکھ، اور میرے لئے بہتری مقدر فرما، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ (بخاری)

توبہ واستغفار (۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اے ایمان والو! اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً

نُصُوحًا﴾ (سورہ تحریم ۸)

اور ارشاد ہے :

اے ایمان والو! اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو

﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ (سورہ نور ۳۱)

شاید کہ تم فلاح پاؤ۔

اور ارشاد ہے

جو کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور اللہ

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

سے بخشش چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان

(سورہ نساہ ۱۱۰)

پائے گا۔

اور ارشاد ہے

اور وہ لوگ جو برا کام کر بیٹھتے ہیں۔ یا اپنے نفس پر

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا

أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنُوبِ

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورہ بقرہ ۲)

ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے

گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون

گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

(۱) توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے سرزد ہو جائے اس کے برے انجام کے

خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رجوع و ندامت ہو اور آئندہ کے لئے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ کی

فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کا عزم اور فیصلہ کرے اور اگر کسی کا حق دہار کما ہے تو اس کو اس کے حوالہ کرے۔

(معارف الہدیث)

اور ارشاد ہے

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾
اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا جب تک تم ان میں
ہو، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا، جب تک وہ
استغفار کرتے ہیں۔ (سورہ انفال ۳۳)

توبہ کی اہمیت

۶۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ (بخاری)

۶۱۸۔ حضرت اغر بن یسار مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دل میں بھی غفلت کا اثر ہو جاتا ہے۔ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ (مسلم)

۶۱۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک مجلس میں رسول اللہ ﷺ کو سو مرتبہ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری توبہ قبول فرما لے۔ بلاشبہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے)۔ فرماتے ہوئے شمار کیا۔ (ابوداؤد)

گنہگار کیلئے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں

۶۲۰۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے۔ (مسلم)

۶۲۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ (جان کی) خرابی نہ شروع ہو۔ (ترمذی)

توبہ کرنے والا گنہگار سب سے بہتر ہے

۶۲۲۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تمام بنی آدم خطاوار ہیں، خطاواروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ (ترمذی)

گناہ دل کو سیاہ کرتا ہے اور توبہ دل کو صاف کرتی ہے

۶۲۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اس کے دل پر ایک کالا دھبہ ڈال دیتی ہے۔ پھر جب وہ غلطی سے باز آجاتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر غلطی کرتا ہے (اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی) تو دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی ”ران“ کہلاتا ہے۔ جس کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (دیکھو یہ جو (اعمال بد) کرتے ہیں۔ ان کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے۔) (ترمذی)

توبہ باعث خیر و برکت

۶۲۴۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص استغفار میں پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا۔ اور ہر غم سے خلاصی دے گا۔ اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ (ابوداؤد)

۶۲۵۔ حضرت بلال بن یسار بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ“ پڑھا تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، چاہے وہ جنگ سے بھاگ آیا ہو۔ (ابوداؤد ترمذی)

توبہ کی سب سے بہتر دعا

۶۲۶۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے
 اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے ہی مجھے
 پیدا فرمایا اور وجود بخشا میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ عاجز و ناتواں سے ہو سکے گا تیرے کئے
 ہوئے (ایمانی) عہد و میثاق کے وعدے پر قائم رہوں گا تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار کے
 شر سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے
 نافرمانیاں کیں اور گناہ کئے، اے مالک و مولا تو مجھے معاف کر دے اور میرے گناہ بخش دے،
 تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔

جس بندے نے اخلاص کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ
 تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا، اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو
 بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔ (بخاری)

رسول اللہ ﷺ پر درود (۱)

بھیجنے کا ثواب

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (احزاب)

پیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔

درود کی فضیلت

۶۲۷۔ حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحم فرماتا ہے۔ (مسلم)

(۱) ”صلوٰۃ و سلام“ دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کیشی کے اظہار کے لئے آپ کے حق میں کی جاتی ہے اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا ہے اور بڑے پیارے اور موثر انداز میں دیا گیا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾۔
حکم اور خطاب کا یہ انداز قرآن پاک میں صرف صلوٰۃ و سلام کے اس حکم ہی کے لئے اختیار کیا گیا ہے، دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لئے بھی نہیں کیا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔

اس بنا پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر خاص الخاص عنایت نوازش اور بڑا پیار دلا رہے وہ ان کی مدح و ستائش کرتا اور عظمت و شرف کے بلند ترین مقام تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے اور فرشتے بھی ان کی تکریم و تعظیم اور مدح و ثناء کرتے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بیش از بیش اللطاف و عنایات اور رفح درجات کی دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ایسا ہی کرو اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے خاص الخاص لطف و عنایت، محبت، مراتب اور درجات کی بلندی، پورے عالم کی سیادت و امامت اور محمود و مقبولیت شفاعت کی دعا کیا کرو اور آپ پر سلام بھیجا کرو۔ (متنخیص معارف)

درود پر خوشخبری

۶۲۸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہو گا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ (ترمذی)

عدم درود پر ذلت

۶۲۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہ ذلیل ہو، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (۱)۔ (ترمذی)

قبر پر جشن منانے کی ممانعت

۶۳۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری قبر پر جشن نہ مناؤ (۲) اور مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے تم چاہے جہاں ہو۔ (ابوداؤد)

وسیلہ کی دعا کی اہمیت

۶۳۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو تم بھی وہی کلمات دہراؤ، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں

(۱) امت کے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنا ہر فرد امت پر فرض ہے جس کے لئے کسی وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور اس کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اس پر قائم رہے، لیکن امت پر آپ کے احسانات کا ادنیٰ شکر ہر امتی پر یہ ہے کہ جب نام نامی اسم گرامی پڑھے یا سنے تو صلوٰۃ و سلام بھیجنا چاہئے، صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ وسلم۔

(۲) اللہ کے رسول ﷺ نے جب اپنی قبر مبارک کو جشن گاہ بنانے سے منع فرمایا تو کیا دوسرے بزرگوں کی قبروں پر عرس وغیرہ کا جواز نکل سکتا ہے، ایک حدیث میں یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور جشن گاہ بنا لیا تھا۔

بھیجتا ہے۔ اس کے بعد میرے لئے وسیلہ مانگو، وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے، جو اللہ کے ایک بندے کو ملے گا، اور امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ تو جو شخص میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا۔ اس کے لئے میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ (ترمذی)

درود کے لئے جمعہ کے دن کی فضیلت

۶۳۲۔ حضرت اوس بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے افضل دن جمعہ ہے تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ کو پیش کیا جائے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی! ہمارا درود آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا آپ کا جسم مبارک تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسم کو زمین پر حرام فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

چتنا زیادہ درود بھیجا جائے اتنا ہی اچھا ہے

۶۳۳۔ حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں تو آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، میں نے عرض کیا چوتھائی؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا نصف؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر دو تہائی کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے ہی لئے بہتر ہوگا۔ تو انھوں نے کہا تب تو سب درود آپ ہی پر بھیجا کروں گا، آپ نے فرمایا تو تمہارے سارے غم دور ہوں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (۱) (ترمذی)

(۱) حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے دل میں آیا کہ دعاؤں کے اوقات میں کچھ وقت رسول اللہ ﷺ پر درود کے لئے مخصوص کر دوں اس بارے میں انھوں نے خود رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، آپ نے وقت کی تحدید نہیں فرمائی بلکہ ان ہی کی رائے پر چھوڑ دیا اور اشارہ فرمایا کہ اس کے لئے جتنا وقت دو گے تمہارے لئے بہتر ہوگا، آخر میں انھوں نے طے کیا کہ میں وہ سارا وقت جس میں اپنے لئے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں رسول اللہ ﷺ پر صلوة بھیجتے ہی میں صرف کرونگا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو بشارت سنائی تھی، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ و قصور معاف ہو جائیں گے۔

درود میں ان الفاظ کی فضیلت

۶۳۴۔ حضرت ابو حمید ساعدیؓ سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی! آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایا اس طرح پڑھو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریات پر جیسا تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرمایا سیدنا محمد اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریات پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے)۔ (بخاری و مسلم)

۶۳۵۔ حضرت کعب بن عجرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی! ہم کو آپ بتائیں کہ آپ کو سلام کس طرح کریں اور درود کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہو ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اور برکت نازل فرمایا سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے)۔ (بخاری)

۶۳۶۔ حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب تم لوگ رسول اللہ پر درود بھیجو تو اچھی طرح درود بھیجو، تمہیں معلوم نہیں کہ شاید یہ رسول اللہ پر پیش کیا جائے، راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان سے کہا ہمیں آپ سکھا دیجئے تو انہوں نے کہا تم لوگ کہو۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ

ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك
 ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه
 به الاولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
 ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
 محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ (اے اللہ اپنا
 درود اور اپنی رحمت اور اپنی برکتیں نازل فرما سید المرسل امام المتقين خاتم النبيين اپنے بندے اور
 رسول محمد پر جو خیر کے امام اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے اور رحمت کے رسول ہیں۔ اے
 اللہ! تو انھیں مقام محمود تک پہنچا، جس پر اگلے پچھلے سب رشک کرتے ہیں۔ اے اللہ! درود
 نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم اور آپ کی آل پر درود نازل
 فرمایا، بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ! تو برکت نازل فرما سیدنا محمد ﷺ پر اور آپ کی
 آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم پر اور آپ کی آل پر بیشک تو ستودہ صفات
 بزرگ ہے)۔ (ابن ماجہ)

تفصیلی فہرست

۳ فہرست کتاب
۵ عرض ناشر
۶ مقدمہ
۱۱ پیش لفظ
۱۶ مؤلف کتاب
۲۳-۳۴ توحید کا بیان
۲۸ ارشادات نبوی ﷺ
۲۸ توحید اسلام کا سب سے پہلا قدم
۲۸ توحید ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ
۲۸ غیب کا علم صرف خدا کو ہے
۲۹ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے
۲۹ شگون اور رمل کا حکم
۳۰ نحوست اور بد شگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں
۳۰ اللہ کی یاد اسی سے سوال، اسی سے استمداد
۳۱ حاجت روا صرف اللہ کو سمجھنا چاہئے
۳۱ غیر قوموں کا شعار نہیں اپنانا چاہئے
۳۲ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت
۳۲ اللہ کی ذات سفارش سے بلند و بالا ہے

- ۳۳ نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے
- ۳۳ بے جا اور حد سے بڑھی تعریف سے ممانعت
- ۳۳ بندہ اور بندگی کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جائیگی
- ۳۴ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے
- ۳۴ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے

۳۱-۳۵ اخلاص و للہیت

- ۳۶ مقبول عمل کا وسیلہ مصیبت سے نجات دیتا ہے
- ۳۷ تین ریاکاروں کا انجام
- ۳۸ صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لئے ہو !
- ۳۹ اللہ کی خوشنودی اخلاص سے اس کی عبادت
- ۳۹ دنیوی فائدے کیلئے دینی عمل سیکھنے والے کا برا انجام
- ۳۹ اللہ جل شانہ ہر قسم کی شرکت سے بے نیاز اور سخت بیزار ہے
- ۴۰ بزرگوں کے بھیس میں آکر دھندل کرنے والوں کی عبرت ناک سزا
- ۴۰ تین باتیں دل کے مرض کا تریاق ہیں
- ۴۱ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے
- ۴۱ اعمال کا دار و مدار نیوٹوں پر ہے

۴۷-۴۲ کتاب و سنت

- ۴۴ سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد ﷺ کا طریقہ ہے
- ۴۴ ہر بدعت گمراہی ہے
- ۴۵ اطاعت میں نجات اور نافرمانی میں ہلاکت ہے
- ۴۶ ہر حال میں کتاب و سنت پر عمل اور حق بات کہنے کی جرأت
- ۴۶ کامیابی آپ کی چال چلنے میں ہے

- علم کس طرح اٹھے گا ۴۶
- سنت سے بے رخی آپ سے بے تعلقی ہے ۴۷
- جس نے دین میں نئی چیز پیدا کی ۴۷
- اللہ اور اسکے رسول ﷺ سے محبت ۴۸-۵۰
- حلاوت ایمانی کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں ۴۹
- رسول اللہ ﷺ کی محبت سب پر غالب ہونی چاہئے ۴۹
- جو جس سے محبت کرے گا اسکا حشر اسی کے ساتھ ہوگا ۴۹
- کسی ولی سے نفرت اور دشمنی رکھنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ۵۰
- اہل بیت کی محبت ۵۱-۵۵
- اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے ۵۱
- اہل بیت کی فضیلت ۵۲
- حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ ۵۳
- حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی محبوبیت ۵۳
- سیدنا حسنؑ کی رسول اللہ ﷺ سے مشابہت ۵۳
- جگر گوشہ رسول کے بد بخت قاتلین کی مذمت ۵۳
- اہل بیت کرام میں سے زیادہ محبوب حضرات حسنین ہیں ۵۴
- نوجوانان اہل جنت کے سردار ۵۴
- حضرت علیؑ کی محبت ایمان کی علامت ۵۴
- حضرت علیؑ کا مقام و مرتبہ ۵۵
- حضرت خدیجہ الکبریٰؑ کی فضیلت و مرتبہ ۵۵
- حضرت عائشہؑ کی فضیلت ۵۵

صحابہ کرام کی محبت ۵۶-۶۳

- ۵۷ صحابہ کرام کو ہدف ملامت بنانے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ ہے
- ۵۸ نبوی صدی سب سے زیادہ روشن اور افضل صدی
- ۵۸ صحابہ کرام سب سے برگزیدہ اور برتر لوگ
- ۵۹ صحابہ کرام کا معمولی صدقہ ہمارے بڑے صدقات پر بھاری ہے
- ۵۹ جنگ بدر میں شریک صحابہ و فرشتوں کا مرتبہ
- ۵۹ شرکاء بدر و حدیبیہ کی فضیلت
- ۶۰ انصار سے محبت ایمان کی علامت اور بغض نفاق کی علامت
- ۶۰ حضرت ابو بکرؓ کا مقام
- ۶۰ حضرت عمرؓ کی خصوصیت
- ۶۱ حضرت عثمانؓ کی حیا
- ۶۱ حضرت علیؓ کی فضیلت
- ۶۱ حضرت عباسؓ کی برکت سے بارش ہوتا
- ۶۱ حضرت زبیر بن العوامؓ کا امتیاز
- ۶۲ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کی قربانی
- ۶۲ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی خاص فضیلت
- ۶۲ حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کا رتبہ
- ۶۲ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کیلئے نبی کی دعا
- ۶۳ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا صلاح و تقویٰ
- ۶۳ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی رسول اللہ سے مشابہت
- ۶۳ حضرت سعد بن معاذؓ (انصاری) کے انتقال پر عرش الہی کی جنبش
- ۶۳ چار قرآن والے صحابہ

۶۳ حضرت عبد اللہ بن سلام کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت

۶۳ اللہ کے محبوب رسولؐ کے محبوب صحابی

۶۳ حضرت جعفر بن ابی طالب کی منقبت

۶۵-۶۸ دوستی ہو یا دشمنی خدا کیلئے ہو

۶۶ عرش کا سایہ

۶۶ اللہ کی محبت ان لوگوں کیلئے

۶۶ مسلمان بھائی سے ملاقات کے لئے جانا

۶۷ اللہ تعالیٰ کی محبت ماسوا سے زیادہ ہو

۶۷ سات قسم کے لوگ عرش کے سایہ میں

۶۸ کام خالص اللہ کے لئے کرنا چاہئے

۶۸ مسلمان کی اہمیت

۶۸ جس سے محبت ہو اس کو بتادے

۶۹-۷۵ مسلمانوں کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ

۷۰ مسلمان بڑا قابل احترام ہے

۷۱ کتاب اللہ ہمارے لئے اسوہ ہے

۷۱ مؤمن، مؤمن کا معاون و مددگار ہے

۷۱ ایمان والے کو ہر مؤمن کی تکلیف کا احساس ہونا چاہئے

۷۲ مسلمان بھائی کی مدد سے اللہ کی نصرت

۷۲ مسلمانوں کی تحقیر کرنے اور ان کا ساتھ چھوڑنے کی حرمت

۷۲ مسلمانوں سے ناحق بدظنی کرنے کی حرمت

۷۳ تین دن سے زائد مسلمان سے مقاطعہ کی حرمت

۷۳ مسلمانوں کو ایذا دینے اور ان سے بدزبانی کرنے کی حرمت

- کفریہ اعمال سے بچنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی حرمت ۷۳
- مسلمان کو گالی دینا فسق ہے ۷۳
- ایک دوسرے کے مال کو ناحق لینے کی حرمت ۷۴
- اس قدر مسلمان قابل احترام ہے ۷۴
- غیبت کرنے پر سخت سزا ۷۴
- منافقوں کے لئے وعید ۷۴
- مسلمان کو منافق سے بچانے والے کیلئے اللہ کی رحمت ۷۵
- بعض مواقع پر مؤمن کی مدد و حمایت ضروری ہو جاتی ہے ۷۵
- مؤمن کی عظمت ۷۵

محنت و مزدوری اور ہاتھ سے کمانے کی اہمیت و فضیلت ۷۶-۷۳

- مانگنا اچھی چیز نہیں ۷۷
- بڑے بڑے پیغمبر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے ۷۷
- حضرت زکریا کی محنت و مزدوری ۷۸
- صدقہ و خیرات میں مالداروں کا حق نہیں ہے ۷۸
- یتیم کے مال کو تجارت کر کے بڑھانا چاہئے ۷۸
- زمانہ حج میں تجارت کا جواز ۷۸
- تجارت کی برکت ۷۹
- مہاجرین کا تجارت اور انصار کا کھیتی باڑی کرنا ۷۹
- حضرت ابو بکرؓ کا تجارت میں مشقت اٹھانا ۸۰
- بیع صرف کا حکم ۸۰
- مقروض سے مطالبہ کرنے میں نرمی اور خرید و فروخت میں سخاوت ۸۱
- نیچے جانے والی چیز کا عیب چھپانے کی سخت ممانعت اور وعید ۸۱

- ۸۱ جھوٹ سے تجارت کی برکت کا اٹھنا
- ۸۲ دھوکہ باز تاجر کا حشر خراب ہوگا
- ۸۲ شجر کاری اور کاشت میں نفع ہی نفع
- ۸۲ بیانی پر زمین دینا
- ۷۳ پیداوار کے نصف حصہ پر معاملہ
- ۸۸_۸۳ زہد و قناعت اور اللہ پر یقین
- ۸۵ مال میں برکت کا طریقہ
- ۸۵ دولت کی کثرت کا نقصان
- ۸۶ دنیا کا جال
- ۸۶ دنیا سے محبت کرنے والے کا حال
- ۸۶ انسان کی تمنائیں ختم ہونے والی نہیں
- ۸۶ بے مانگے حاصل ہونے والے مال کے لینے میں کوئی حرج نہیں
- ۸۷ سامان ضرورت بھر ہو
- ۸۷ تلاش رزق میں پرہیزگاری
- ۸۷ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو
- ۸۷ دنیا میں مسافروں کی سی زندگی گزارو
- ۸۸ خدا اور مخلوق کی محبوبیت کا نسخہ
- ۸۸ اپنے مال میں انسان کا اصلی حصہ
- ۸۸ قیامت میں چار سوال
- ۸۹_۸۳ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت
- ۸۹ لوگوں کی غربت کا نبی کریم پر خاص اثر
- ۹۰ مالداروں کے لئے وعید

- ۹۱ دو طرح کے لوگوں پر رشک کرنا چاہئے
- ۹۱ راہ حق میں خرچ ہونے والا مال اس کا مال ہے
- ۹۲ بے ضرورت مال کو خرچ کرنا
- ۹۲ جو راہ خدا میں کر دیا جائے وہی باقی ہے
- ۹۲ گننے کی ممانعت، خرچ کی ہدایت
- ۹۲ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا
- ۹۳ افضل ترین صدقہ
- ۹۳ دنیا کی بے وقعتی
- ۹۳ انسان کے عمل میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے
- ۹۵-۹۸ ایثار اور ایک دوسرے کا تعاون و دلداری
- ۹۶ ضیافت کی اعلیٰ مثال
- ۹۷ رسول اللہ ﷺ مسائل کو واپس نہیں کرتے تھے
- ۹۷ زائد چیز دینے کا حکم
- ۹۸ آپسی محبت کی مثال
- ۹۸ کھانے کی برکت
- ۹۹-۱۰۳ دوسروں کے ساتھ ہمدردی و بھی خواہی مومن کی شان
- ۹۹ خیر خواہی کی اہمیت
- ۱۰۰ خیر خواہی ہر مسلمان کا حق
- ۱۰۰ ہر مسلمان کو جذبہ خیر خواہی رکھنا چاہئے
- ۱۰۰ جو اپنے لئے پسند وہی اپنے بھائی کیلئے پسند کرے
- ۱۰۰ آپس میں مسلمانوں کے چھ نمایاں حق
- ۱۰۱ جو جیسا کرے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اسکو بدلہ دیں گے

- ۱۰۱ ظالم کی مدد ظلم سے روکنا ہے
- ۱۰۱ برائی سے باز رہنا بھی صدقہ ہے
- ۱۰۲ ضرورت مند کی سفارش کرنے پر اجر
- ۱۰۲ اچھے کام اور برے کام کو رائج کرنے والوں کا ثواب اور عقاب
- ۱۰۲ مؤمن، مؤمن کا آئینہ ہے
- ۱۰۲ عزت رکھنا بڑا ثواب ہے
- ۱۰۳ نیک نیتی سے ہر کام صدقہ ہے
- ۱۰۳ مرنے کے بعد یہ تین چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں
- ۱۰۳ رہنمائی کرنے پر بڑا ثواب ہے
- ۱۰۴-۱۰۷ باہم صلح اور میل جول کرانے کی فضیلت
- ۱۰۴ رسول اللہ کی جدوجہد صلح کے سلسلہ میں
- ۱۰۵ نرمی و سہولت پر تاکید
- ۱۰۵ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے
- ۱۰۶ صلح کی خصوصیت
- ۱۰۶ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مصالحانہ کردار
- ۱۰۶ اور ان کے بارے میں چمن کوئی
- ۱۰۶ آپس کا بگاڑ دین کو برباد کر دیتا ہے
- ۱۰۶ چغلی خور کے لئے وعید
- ۱۰۷ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے اور چغلی خوری کرنے کا عذاب
- ۱۰۸-۱۱۱ والدین کے ساتھ حسن سلوک
- ۱۰۹ افضل اعمال
- ۱۰۹ ماں کا حق سب سے زیادہ

- ۱۰۹ والدین کے حقوق
- ۱۱۰ والدین کی اطاعت جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ
- ۱۱۰ والد کا حق
- ۱۱۰ والدین کی اطاعت
- ۱۱۰ والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعاء و استغفار
- ۱۱۱ رضاعی ماں باپ کی عزت و احترام
- ۱۱۲-۱۱۳ والدین کے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک
- ۱۱۲ والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک
- ۱۱۳ حضرت خدیجہ کی فضیلت
- ۱۱۳ حضرات انصار کی فضیلت
- ۱۱۴-۱۱۸ صلہ رحمی
- ۱۱۴ صلہ رحمی اور قطع رحمی
- ۱۱۵ جو رشتہ کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا
- ۱۱۵ قطع رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے
- ۱۱۵ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں
- ۱۱۶ رشتہ جوڑنے کی فضیلت
- ۱۱۶ رسول اللہ کی تعلیم
- ۱۱۶ نانہال والوں کی مدد
- ۱۱۶ صلہ رحمی سے عمر میں برکت
- ۱۱۷ رشتوں کا پاس و لحاظ
- ۱۱۷ ذہری فضیلت
- ۱۱۸ راہ خدا میں محبوب چیز صرف کرنی چاہئے

- ۱۱۸ رشتہ داروں کا زیادہ حق
- ۱۲۲-۱۱۹ گھروالوں پر خرچ کرنے کا اجر
- ۱۲۰ گھروالوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا
- ۱۲۰ بیوی کو کھلانے کا ثواب
- ۱۲۰ اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب
- ۱۲۰ گھروالوں پر خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے
- ۱۲۱ افضل ترین دینار
- ۱۲۱ اپنے متعلقین کی مدد نہ کرنا بڑا گناہ ہے
- ۱۲۱ گھروالوں کی فکر مقدم

۱۲۵-۱۳۲ بیوی پر شوہر کے حقوق

- ۱۲۳ خیر کے کام میں بھی شوہر کی اجازت ضروری
- ۱۲۳ بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت
- ۱۲۳ شوہر کی ناشکری بیوی کے لئے عذاب کا سبب
- ۱۲۴ شوہر کی خوشی میں بیوی کی نجات
- ۱۲۴ شوہر کا مرتبہ و مقام
- ۱۲۴ سب سے اچھی عورت
- ۱۲۴ عورت فتنہ ہو سکتی ہے
- ۱۲۵ رسول اللہ ﷺ کی تنبیہ
- ۱۲۵ عورت کو شکر گزار ہونا چاہئے

۱۲۹-۱۲۶ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک

- ۱۲۶ عورتوں کے سلسلہ میں حضور ﷺ کی وصیت

- ۱۲۷ اچھی عورت بڑی نعمت ہے
- ۱۲۷ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے
- ۱۲۷ اچھائی پر نظر رکھے اور برائی سے درگزر کرے
- ۱۲۷ عورت کی عزت
- ۱۲۸ بیویوں کے مابین انصاف نہ کرنے پر سزا
- ۱۲۸ انصاف کی پوری کوشش ضروری ہے
- ۱۲۸ عورتوں کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کی ہدایت
- ۱۲۸ اخلاق گھروالوں کے لئے بھی ضروری ہیں
- ۱۲۸ مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے پر حقوق
- ۱۲۹ رسول اللہ ﷺ کا فطرت کے مطابق معاملہ
- ۱۲۹ جو اپنے گھروالوں کیلئے بہتر ہو وہ سب سے اچھا ہے
- ۱۲۹ رسول اللہ ﷺ کی دلداری

بچوں کی تعلیم و تربیت ۱۳۰-۱۳۲

- ۱۳۰ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس پر وہ جواب دہ ہوگا
- ۱۳۰ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو صدقہ کے کھجور کھانے کی ممانعت
- ۱۳۱ کھانے کے آداب
- ۱۳۱ بچوں کو نماز کا حکم
- ۱۳۱ بچے کو ادب سکھانا ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے
- ۱۳۱ اچھی تہذیب و ادب بہترین تحفہ ہے
- ۱۳۱ لڑکی اور لڑکے کی برابری سے پرورش و دخول جنت کا سبب
- ۱۳۲ لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کا مقام
- ۱۳۲ تین لڑکیوں کی صحیح پرورش والا جنتی ہے

۱۳۲ بیٹی کی کفالت صدقہ ہے

۱۳۲ اولاد میں برابری کا حکم

۱۳۶-۱۳۳ مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ محبت نرمی

۱۳۳ اللہ والوں کی فضیلت

۱۳۴ اللہ والوں کی فضیلت

۱۳۴ کمزوروں کی فضیلت

۱۳۴ یتیم کی کفالت

۱۳۵ بیوہ اور مسکین کی خبر گیری پر اجر عظیم

۱۳۵ بری دعوت

۱۳۵ یتیم کی کفالت

۱۳۵ لڑکیوں کی پرورش

۱۳۶ لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک سبب نجات جہنم ہے

۱۳۹-۱۳۷ پڑوسی کا حق اور اس کے بارے میں وصیت

۱۳۷ حضرت جبریلؑ کی تاکید

۱۳۷ ایمان کی شرط

۱۳۸ کسی شخص کو حقیر نہ سمجھو

۱۳۸ ہمسائے کو تکلیف نہ دے

۱۳۸ دیوار میں لکڑی گاڑنے سے روکنا نہ چاہئے

۱۳۸ قریب تر پڑوسی زیادہ مستحق ہے

۱۳۹ سالن کی زیادتی سے پڑوسی کی مدد

۱۳۹ نیک دوست اور نیک پڑوسی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں

۱۳۹ غیر منقسم چیز میں حق شفعہ

- پڑوسی کو بھی شفعہ حق ہوتا ہے ۱۳۹
- مہمان نوازی ۱۳۰-۱۳۲
- مہمان کی عزت و احترام ۱۴۱
- تین دن کی میزبانی اس کا حق ۱۴۱
- بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ۱۴۱
- زائد چیز دوسروں کو دینا ۱۴۲
- ایک دن کی مہمانی فرض ہے ۱۴۲
- خوش اخلاقی اور مہربانی کی اہمیت و فضیلت ۱۳۳-۱۳۵
- دوسروں پر رحم کرنا لے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں ۱۴۳
- بد بخت و بد نصیب رحمت سے محروم ۱۴۳
- رحمت کا بدلہ رحمت ۱۴۳
- غلاموں کے بارے میں نرمی ۱۴۴
- مار کے بدلہ غلام کی آزادی ۱۴۴
- خرچہ روکنا گناہ ہے ۱۴۴
- کثرت سے عفو و درگزر کی تاکید ۱۴۴
- ظلم کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ۱۴۵
- جانوروں کے ساتھ نرمی اور رحم کے برتاؤ کی فضیلت ۱۳۶-۱۳۹
- کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ۱۴۶
- کھیت اور درخت سے پرندہ کا کھانا کارِ ثواب ہے ۱۴۷
- بلی کو ستانے پر عذاب ۱۴۷
- اپنی غرض کی خاطر کسی جاندار کو تکلیف دینا گناہ ہے ۱۴۷

- ۱۴۸ جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ممانعت
- ۱۴۸ جانوروں کو تکلیف دینے والوں پر اللہ کی لعنت
- ۱۴۸ آگ سے جلانا کسی انسان کے لئے مناسب نہیں
- ۱۴۹ جانوروں کو تکلیف دینے کی ممانعت
- ۱۴۹ جانوروں کے سلسلہ میں حضور ﷺ کی ہدایات

آداب معاشرت ۱۵۰-۱۶۰

- ۱۵۱ پہچان اور بے پہچان والے کو سلام
- ۱۵۲ سلام کے احکام
- ۱۵۲ جدا ہونے کے بعد پھر سلام
- ۱۵۲ خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت
- ۱۵۲ مصافحہ کا ثواب
- ۱۵۲ آنے والے سے معافقہ
- ۱۵۳ تین بار کی اجازت طلبی
- ۱۵۳ کسی کو اٹھا کر بیٹھنے کی ممانعت
- ۱۵۳ جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے
- ۱۵۳ ساتھ بیٹھنے والے کو علیحدہ نہ کرے
- ۱۵۳ ایک کو چھوڑ کر دو کو رازدارانہ باتیں نہ کرنی چاہئے
- ۱۵۴ چھینک کی دعا اور اس کا جواب
- ۱۵۴ مریض کی عیادت سے جنت کی بہاروں کا حصول
- ۱۵۴ مریض سے کیا کہا جائے
- ۱۵۴ اپنے کاموں کو دہنے طرف سے شروع کرو
- ۱۵۵ بسم اللہ کہنا بھول گیا ہو تو

- ۱۵۵ حضور ﷺ نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا
- ۱۵۵ ادب اور تہذیب کی تعلیم
- ۱۵۵ تین سانس میں پانی پینے کی ہدایت
- ۱۵۵ کھڑے کھڑے کھانے پینے سے ممانعت
- ۱۵۶ ریشم و دیباچ کے استعمال سے ممانعت
- ۱۵۶ بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں
- ۱۵۶ دوسرے رنگوں کا جواز
- ۱۵۷ تکبر کی نحوست
- ۱۵۷ اللہ کی نعمت کا اظہار
- ۱۵۷ مردوں کیلئے سونا اور ریشم حرام
- ۱۵۷ مجبوری میں ریشمی کپڑے کی اجازت
- ۱۵۷ جمعرات کے دن سفر
- ۱۵۸ تنہا سفر صحیح نہیں ہے
- ۱۵۸ تین مسافر ہوں تو ایک کو امیر بنا لیا جائے
- ۱۵۸ عورت کا سفر محرم کے ساتھ ہو
- ۱۵۸ سفر کا کام ہو جائے تو پھر رکنا نہیں چاہئے
- ۱۵۸ رات کے وقت گھر نہ لوٹا جائے
- ۱۵۹ سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد جائے
- ۱۵۹ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو
- ۱۵۹ راستہ کے حقوق
- ۱۵۹ نگاہ نیچی رکھنے اور الگ الگ لیٹنے کی تاکید
- ۱۶۰ دیور سے پردہ کی تاکید

معصیت (گناہ) سے بچنے کا طریقہ ۱۶۰

نیک لوگوں کی صحبت ۱۶۱-۱۶۳

اچھے اور برے ہمنشین کی مثال ۱۶۱

اچھا انسان اچھا ہی ہوتا ہے ۱۶۲

دوست اور ساتھی سے آدمی کی پہچان ۱۶۲

نیک اور شریف انسان کی خدمت کرنی چاہئے ۱۶۲

اللہ کیلئے محبت کرنی والوں پر اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے ۱۶۲

سب سے قیمتی چیز شوہر کیلئے نیک بیوی ہے ۱۶۳

دیندار خاتون کو شریک حیات بنانے میں کامیابی ہے ۱۶۳

تواضع و خوش اخلاقی ۱۶۳-۱۶۷

نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق ۱۶۳

نیکی اور برائی کا فرق ۱۶۵

اچھے اخلاق کی فضیلت ۱۶۵

گالی گلوچ کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں ۱۶۵

دخول جنت اور دخول جہنم کا سبب ۱۶۵

سب سے بہتر وہی ہے جو گھر والوں کے لئے بہتر ہو ۱۶۶

اخلاق کا اونچا مقام ۱۶۶

بحث و مباحثہ میں الجھنا نقصان دہ ۱۶۶

بڑائی بگھارنے والے ناپسندیدہ ہیں ۱۶۶

تواضع اختیار کرنے اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تاکید ۱۶۷

معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے ۱۶۷

۱۶۱-۱۷۱ بر دباری اور نرم دل کی فضیلت

- ۱۶۹ دو کاموں میں رسول اللہ ﷺ آسان بات کو اختیار کرتے تھے
- ۱۶۹ حضور کا بدلے سے اجتناب
- ۱۶۹ حلم و عالی ظرفی
- ۱۶۹ نرمی سے پیش آنا
- ۱۷۰ خدا کی دو پسندیدہ خصلتیں
- ۱۷۰ پیغمبروں کا عمل
- ۱۷۰ نرمی کی حیثیت
- ۱۷۰ نرمی زینت کا سامان
- ۱۷۰ ذبیحہ کی تکلیف کا خیال
- ۱۷۱ پہلوان کی پہچان
- ۱۷۱ نرمی میں بڑا خیر ہے
- ۱۷۱ وہ شخص جس پر جہنم حرام ہے
- ۱۷۱ صبر اور درگزر کرنے والے پر اللہ کا انعام

۱۷۲-۱۷۵ امانت اور وعدہ کا پاس و لحاظ

- ۱۷۳ منافق کی تین نشانیاں
- ۱۷۳ چار خصلتیں صرف منافق کی ہیں
- ۱۷۳ امانت کا اٹھ جانا
- ۱۷۴ حضرت ابو بکر نے حضور اکرم ﷺ کے وعدے کو پورا کیا
- ۱۷۴ اصل در او مدار نیت پر ہے
- ۱۷۴ وعدہ وعدہ ہے چاہے معمولی چیز کا کیوں نہ ہو
- ۱۷۵ اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑنے کا وبال

۱۷۹-۱۷۶ صداقت و راستی

- ۱۷۶ راستی نیکی کی رہبری ہے
- ۱۷۷ رسول کی تعلیم
- ۱۷۷ سچائی میں برکت
- ۱۷۷ بدترین جھوٹ
- ۱۷۸ اعلیٰ خیانت
- ۱۷۸ مؤمن کے بارے میں سوال
- ۱۷۸ کچھ دینے کیلئے بلانا پھر نہ دینا جھوٹ ہے
- ۱۷۸ تفریح طبع کیلئے بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے
- ۱۷۹ ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا جھوٹے ہونے کیلئے کافی ہے
- ۱۷۹ شک والی چیز کے ترک کرنے کا حکم
- ۱۸۰ شرم و حیا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے
- ۱۸۰ حیا ایمان کی بات ہے
- ۱۸۰ حیا پوری طرح خیر ہے
- ۱۸۱ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے
- ۱۸۱ حیا ہر چیز کا ثمرہ جنت ہے
- ۱۸۱ حیا ہر چیز کو سنوار دیتی ہے
- ۱۸۱ اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے
- ۱۸۱ نبی کریم سب سے زیادہ حیا والے تھے
- ۱۸۲ بے حیائی برے لوگوں کی علامت ہے
- ۱۸۲ ایمان کی دو شاخیں
- ۱۸۲ حیا کی تشریح و تفسیر

مصیبت و آزمائش میں صبر و رضا ۱۸۲-۱۸۳

- ۱۸۳ آہ و بکا کی ممانعت
- ۱۸۳ صبر مصیبت کے وقت ہی معتبر ہے
- ۱۸۳ پریشانیاں گناہوں کا کفارہ ہیں
- ۱۸۵ مومن اور فاجر کی مثال
- ۱۸۵ ناپینا کے صبر کا بدلہ جنت ہے
- ۱۸۵ مومن کے ہر معاملہ میں خیر
- ۱۸۶ دنیا میں سزا بندے کے ساتھ بھلائی ہے
- ۱۸۶ جان و مال کے نقصان پر صبر
- ۱۸۶ لوگوں سے ملنے جلنے والا افضل ہے

احسان شناسی ۱۸۷-۱۸۹

- ۱۸۷ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے
- ۱۸۸ کھانے پینے پر اللہ کی حمد بیان کرنا
- ۱۸۸ شکر گزار ہونا
- ۱۸۸ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی
- ۱۸۸ حسن سلوک کا بدلہ تعریف اور شکر بھی ہے
- ۱۸۹ احسان کا بدلہ
- ۱۸۹ جزاک اللہ کی اہمیت
- ۱۸۹ لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہئے

اعتماد و بھروسہ ۱۹۰-۱۹۲

- ۱۹۱ آپ کے توکل کی تعلیم

- ۱۹۱ بغیر حساب و کتاب کے جنت والے
- ۱۹۱ توکل کی خصوصیت
- ۱۹۱ بھروسہ کی اہمیت اور اس کا مقام
- ۱۹۲ اللہ والوں کی برکت

۱۹۵-۱۹۳ تقویٰ و پرہیزگاری

- ۱۹۳ دنیا کی دو آزمائشیں
- ۱۹۳ نیکی ہر حال میں سود مند ہے
- ۱۹۳ جنت و جہنم میں لے جانی والی چیزیں
- ۱۹۳ مشتبہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے
- ۱۹۵ دل اچھے اور برے کو بتاتا ہے
- ۱۹۵ متقی بندے کیلئے بعض جائز کاموں کو چھوڑنا
- ۱۹۵ شک سے اجتناب

۱۹۸-۱۹۶ نیک کاموں میں جلدی اور استقامت

- ۱۹۶ پسندیدہ عمل استقامت ہے
- ۱۹۷ رسول اللہ کے معمولات
- ۱۹۷ تہجد کی قضا
- ۱۹۷ رات کا معمول چھوٹنے کا بدل
- ۱۹۸ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے شرائط
- ۱۹۸ سات خطرناک چیزیں
- ۱۹۸ پیچیدہ حالات میں استقامت کا طریقہ

۲۰۳-۱۹۹ عبادت و طاعت میں اعتدال

- ۱۹۹ حق والے کا حق ادا کرنا
- ۲۰۰ صوم وصال کی ممانعت
- ۲۰۱ پابندی اور اعتدال اسلام کی دو پسندیدہ چیزیں
- ۲۰۱ جسم کو بے جا تکلیف دینے کی ممانعت
- ۱۰۲ جتنا بس میں ہوتا ہی کرنا چاہئے
- ۲۰۲ نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھے
- ۲۰۲ غلو سے پرہیز گاری
- ۲۰۳ حضور ﷺ کی عبادت
- ۲۰۳ نبی کی اتباع محبوب عمل ہے
- ۲۰۳ نشاط کے وقت عبادت کرنی چاہئے

قرآن کی فضیلت ۲۰۳-۲۱۲

- ۲۰۵ قرآن مجید قیامت میں سفارش کریگا
- ۲۰۵ انگ انگ کر پڑھنے والوں کیلئے دہرا اجر
- ۲۰۶ قرآن مجید پڑھنے والا مؤمن
- ۲۰۶ رشک کا موقع
- ۲۰۶ آنحضرت ﷺ کی قرآن مجید پڑھنے کی فرمائش
- ۲۰۷ درس و مذاکرہ
- ۲۰۷ سورۃ فاتحہ کی فضیلت
- ۲۰۷ آیۃ الکرسی
- ۲۰۸ جھوٹے شخص سے سچی بات معلوم ہوئی
- ۲۰۸ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں
- ۲۰۸ جہاں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے

- سورۃ بقرہ ۲۰۹
- تلاوت کرنے والوں کے لئے سفارش ۲۰۹
- قیامت میں قرآن کی شفاعت و وکالت ۲۰۹
- سورۃ کہف کی ابتدائی دس آیتیں ۲۱۰
- قرآن مجید پڑھنے سے سکینت کا نزول ۲۱۰
- سورۃ فتح کی فضیلت ۲۱۰
- سورۃ ملک ۲۱۱
- سورۃ اخلاص ۲۱۱
- معوذتین ۲۱۱
- دم کرنے کا صحیح طریقہ ۲۱۲

خدا کا ذکر ۲۱۳-۲۱۶

- بندے کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا معاملہ ۲۱۳
- اللہ تعالیٰ کی یاد سے ترقی ۲۱۳
- لا الہ الا اللہ کی فضیلت ۲۱۵
- سبحان اللہ کی فضیلت ۲۱۵
- لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی فضیلت ۲۱۵
- خوش نصیب مالدار ۲۱۶
- سونے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت ۲۱۶

اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ۲۱۷-۲۲۰

دعاء ۲۲۱-۲۳۶

- دعا عبادت ہے ۲۲۲

- ۲۲۲ دوسروں کے لئے اپنے لئے دعا ہے
- ۲۲۲ دعا ضرور قبول ہوتی ہے
- ۲۲۳ قبولیت دعا کا وقت
- ۲۲۳ جامع دعائیں
- ۲۲۳ مصیبت کے وقت کی دعا
- ۲۲۳ دعا و استغفار
- ۲۲۵ دین و دنیا کی بھلائی
- ۲۲۵ بہتر دعا
- ۲۲۶ اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ
- ۲۲۶ مصائب اور مشکل وقت کی دعا
- ۲۲۶ اولاد کے حق میں بددعا کی ممانعت
- ۲۲۷ خاص سونے کے وقت کی دعائیں
- ۲۲۷ صبح کے وقت کی دعا
- ۲۲۷ صبح کے وقت کی دعا
- ۲۲۸ استنجا کے وقت کی دعا
- ۲۲۸ کھانے سے فراغت کے بعد کی دعا
- ۲۲۸ کپڑا پہننے کی دعا
- ۲۲۹ ہر بری چیز سے حفاظت کی دعا
- ۲۲۹ سفر کی دعا
- ۲۳۰ سفر پر جانے والے کو وصیت اور اس کی دعا
- ۲۳۰ مسافر کو رخصت کرنے کا طریقہ
- ۲۳۱ مصیبت و آفت رسیدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا

- ۲۳۱ آندھی کے وقت کی دعا
- ۲۳۱ بارش کے وقت کی دعا
- ۲۳۱ نیا چاند دیکھنے کے وقت کی دعا
- ۲۳۲ عیادت کے وقت کی دعا
- ۲۳۲ جھاڑ پھونک کا مسنون طریقہ
- ۲۳۳ موذی جانور کا کاٹنے کی دعا
- ۲۳۳ ہر چیز سے حفاظت کے لئے دعا
- ۲۳۳ قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا
- ۲۳۴ استغفار کی برکت
- ۲۳۴ تکلیف کے وقت حضور کا طریقہ کار
- ۲۳۵ درد کے وقت کی دعا
- ۲۳۵ استخارہ کی دعا اور اس کا طریقہ

توبہ و استغفار ۲۳۷-۲۴۰

- ۲۳۸ توبہ کی اہمیت
- ۲۳۸ گنہگار کے لئے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں
- ۲۳۹ توبہ کرنے والا گنہگار سب سے بہتر ہے
- ۲۳۹ گناہ دل کو سیاہ کرتا اور توبہ دل کو صاف کرتی ہے
- ۲۳۹ توبہ باعث خیر و برکت
- ۲۴۰ توبہ کی سب سے بہتر دعا

رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا ثواب ۲۴۱-۲۴۵

- ۲۴۱ درود کی فضیلت
- ۱۴۲ درود پر خوشخبری

۱۳۲	عدم درود پر ذلت
۱۳۲	قبر پر جشن منانے کی ممانعت
۱۳۲	وسیلہ کی دعا کی اہمیت
۱۳۳	درود کیلئے جمعہ کے دن کی فضیلت
۱۳۳	جتنا زیادہ درود بھیجا جائے اتنا ہی اچھا ہے
۱۳۴	دور میں ان الفاظ کی فضیلت
۲۷۲-۲۷۶	تفصیلی فہرست